

موت کیا ہے



ام جلال النبین سیوطی

متوفی ۱۴۲۰ھ

محمد افروز قادری حیرپاکوٹی

حوالہ ملکہ آنہ بنب ذرہ

فیض گنج بخش بکہ سنت



بَأَيِّ أَنْتَ وَأَمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ

تفصیلات

- کتاب : ”بُشْرَى الْكَثِيرِ بِلِقَاءِ الْحَبِيبِ“
- موضوع : حقیقت موت، احوال برخ اور معرفت روح
- تألیف : امام جلال الدین سیوطی - قدس سرہ العزیز -
- ترجمہ : ابو رفقة محمد افروز قادری چریا کوئی
- پروفیسر: داصل یونیورسٹی، کیپ ٹاؤن، ساؤ تھا فریقہ
afrozqadri@gmail.com
- تصویر : علامہ محمد عبدالسمیں نعمانی قادری - مدظلہ النورانی -
- کتابت : فہمی چریا کوئی
- صفحات : اٹھائی (۸۸)
- إِشَاعَةٌ : ۱۴۳۲ھ..... ایک ہزار ایک سو (1,100) ۲۰۱۱ء
- قیمت : ر روپے
- تقسیم کار : ادارہ فروغ اسلام، چریا کوٹ، منو، یوپی، انڈیا۔


۰ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Copyright©2014 by Idara Faroghe Islam. All rights reserved.
The income out of this book is dedicated to (ادارہ فروغ اسلام) for rever.

فہرست

۵	تقریظ بحیل
۷	عرض حال
۹	مقدمہ اzmولف
۹	موت، حیات سے بہتر ہے
۱۷	موت! تنگ گھر سے کشادہ گھر کا سفر
۲۰	بوقت موت بندہ مومن پر نوازشیں
	مردے کی روحوں سے ملاقات.....
۳۷	اور اُس سے استفسارات
۳۹	مردہ، غسل و تکفین کرنے والے کو پیچانتا ہے
۴۰	زمین و آسمان کا رونا
۴۲	مومن کے ساتھ قبر کا سلوک
۴۳	قبر میں مومن کا خیر مقدم
۴۴	سوالی منکر کنیر کے وقت مومن کو بشارت
۵۱	قبر میں مومن پر عذاب کی کیفیت

- ۵۵ قبر میں مردوں کا نمازیں پڑھنا
۵۸ مومن کو قبر میں فرشتے قرآن پڑھاتے ہیں
۵۹ قبر میں مومن کا لباسِ فاخرہ
۶۱ بات، قبر میں مومن کے بستر کی
۶۲ قبر میں مردوں کی باہمی زیارت و ملاقات
۶۷ میت، اپنے زائر کو پہچانتی اور اس سے اُنس پاتی ہے
۶۹ روحوں کے کاشانے
۸۶ قصہ اہل ایمان کے نونہالوں کی رضاعت و حضانت کا



(آغاز ترجمہ: ۱۳ اربيع الآخر ۱۴۳۰ھ، بروز پنجشنبہ - مطابق: ۹ اپریل ۲۰۰۹ء)
(تمکیل ترجمہ: ۲۱ اربيع الآخر ۱۴۳۰ھ، بروز جمعہ - مطابق: ۷ اپریل ۲۰۰۹ء)

تقریطِ جمیل

مُفکر اسلام مصلح امت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالمسین نعمانی قادری - مظلہ العالی۔

آج کل آدمی موت سے گھبرا تا ہے بلکہ موت کے نام سے بھی کراہت کرتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بندہ موسیٰ تو بخوبی موت کا استقبال کرتا ہے۔ شاعر مشرق، اقبال کہتے ہیں۔

نشانِ مر و مون بہ تو گویم

چوں موت آیدِ بسم بر لب اوست

الہذا موسیٰ کو تو موت سے ڈرانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں! اگر ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال نامے سیاہ ہیں، حساب و کتاب کا خوف دامن گیر ہے تب بھی ڈرنے سے فائدہ نہیں کہ موت تو اپنے وقت پر آئی ہے، ڈرنے سے ٹل نہ جائے گی۔ ارشادِ ربانی ہے :

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (سورہ

یونس: ۲۹/۱۰)

جب ان کا وعدہ (موت کا) آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے تھیں نہ آگے بڑھیں۔

اور فرماتا ہے :

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَذْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوقٍ مُّشَيَّدِةٍ ۝ (سورہ

یونس: ۲۹/۱۰)

تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔

کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے نامہ اعمال کی فکر کرے، اس میں جو گناہوں کی سیاہیاں ہیں ان سے خوف زدہ ہو اور انابت و توبہ سے اس کے اندر روشی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سوچتا رہے کہ موت کا وقت تو معین ہے؛ لیکن ہمیں معلوم نہیں، تو وہ کب آجائے اور اپنے چنگل میں دبوچ لے اس کی کسی کوخبر نہیں۔ لہذا جلد توبہ کر کے آخرت کی سرخروئی حاصل کر لیتی چاہیے؛ تاکہ جب موت آئے تو حسرت و یاس کا شکار نہ ہونا پڑے، بلکہ یوں پرتبسم ہو، چہرہ خندان و شاداں ہو، اور موت کو بخوبی گلے لگانے کا جذبہ بے کراں دلوں میں موجود ہو۔

زیرِ نظر کتاب ”موت کیا ہے؟“ مومن کو موت سے بے خوف کرنے والی اور طرح طرح کی بشارتیں سنانے والی کتاب ہے، جسے پڑھ کر ایک طرف تو دلوں کی مر جھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھتی ہیں تو دوسری طرف عمل یک کا جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے، اور موت کا خوف دور ہو کر موت کو گلے لگانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔

اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے اور جونہ پڑھ سکیں ان کو سانا چاہیے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ - متوفی ۹۱۱ھ - کی کتاب ”بشری الکنیب بلقاء الحبیب“ کا سلسلہ ترجمہ ہے۔ اس میں شامل بہت سی احادیث کی مترجم نے تخریج کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مترجم مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی شیخین کے مستحق ہیں کہ ”موت“ کے تعلق سے ایک اچھی کتاب کو اردو کا جامہ پہنادیا ہے۔

مولیٰ عزو جل اسے شرف قبول عطا فرمائے اور پڑھنے والوں کو عبرت و سبق لینے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ الصلوٰۃ وآلہ التسلیم۔

محمد عبدالمحبین نعمانی قادری

الجمع الاسلامی، ملت گرگ، مبارکپور، اعظم گڑھ

۱۴ رجب المحرما ۱۴۳۲ھ / ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۰ء، جمعہ مبارک

عرضِ حال

حضرت امام جلال الدین سیوطی - رحمہ اللہ ورضی عنہ - امت مسلمہ کے ان جلیل القدر فرزندوں میں ہیں جن کے احسانات صحیح قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ مختلف موضوعات پر روشنی ذاتی آپ کی کتابیں صدیوں سے بنی نوع انسان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کی سطروں میں آج بھی ویسے ہی زندہ جاوید ہیں جیسے کل اپنے عہد مسعود میں، اور - ان شاء اللہ - اپنی بے پایاں خدمات دین کے حوالے سے کل بھی مرنے نہ پائیں گے۔

آپ کی طبع وقاد نے ہر موضوع پر خاریج تحسین وصول کیا۔ اتنی معمولی سی عمروں میں حیرت ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسباب کی عدم فراہمی کے باوجود لتنا کچھ کر دکھایا اور آج ہزار سو لئیں ہونے کے باوصف ان کے جیسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ یقیناً ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا جس نے ان سے اتنا کچھ کرالیا، اور یہ فضل الہی ان کے خلوص و اطاعت کا شرہ تھا جس سے آج ہم محروم ہیں۔

وہ نیک تھے، اچھے تھے، سچے تھے۔ ہم بد ہیں، برے ہیں۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں تھا اور ہمارے ظاہر و باطن میں کھلا فرق ہے۔ وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے اور ہم جو کہتے ہیں ٹھیک اُس کا اُنٹ کرتے ہیں۔ ان کی ظاہری آنکھیں بھی پنور تھیں اور باطنی آنکھیں بھی بینا تھیں؛ مگر ہم ظاہر ا لا کھ انکھیارے سے ہیں، دل سیاہ اور اندر ہے ہو گئے ہیں۔ روح کی بستی اجز گئی ہے۔ فکرونظر کی قوتیں بانجھ ہو گئی ہیں۔ عمل کے لیے اعضا و جوارح شل ہو گئے ہیں۔ عارضی گھر (دنیا) کے لیے تو ہم سب کچھ کر بیٹھتے ہیں مگر دائی ٹھکانا (آخرت) کے لیے ایک ذرا نہیں ہو پاتا۔ آج ہم بندہ زر ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ بے نیازِ زر تھے، انہوں نے دنیا کے لیے اسے اتنا ہی برتا جتنا چاہیے تھا۔

کاش! ہم بھی اپنے تن من سے مسلمان ہو جاتے۔ قول عمل میں یگانگت لاتے۔

ظاہر کے ساتھ باطن کی آنکھیں بینا کرنے کی فکر کرتے۔ روح کے تقاضے پورے کرتے۔ دل کی ویران یعنی آباد کرتے، نفس وزن وزر کو محض دنیا برتنے تک محدود رکھتے تو یقیناً ہم بھی فضل مولا کی رسی تھامنے میں کامیاب ہو جاتے اور توفیق ایزدی ہمارے رفیق سفر ہو جاتی۔ اللہ اپنی توفیق خاص سے نوازے۔ آمین۔

یہ کتاب، فکر آخوندگی کی لو تیز کرنے کی ایک کڑی ہے، اور دنیا برتنے کا سبق دیتی ہے۔ نیز اس دنیا سے جل چلاوے کے وقت مون کن کن نعمتوں اور انعامات سے بہرہ ور کیا جاتا ہے ان پر رoshni بھی ذاتی ہے۔ مرننا چوں کہ ہر ایک کو ہے اس لیے یہ کتاب ہر کسی کے مطالعہ سے گزرنا چاہیے اور اپنی زندگی و موت کی کنہ و حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کائنات کی بقیہ چیزوں میں اختلاف کے شو شے تو نکال لیے جاتے ہیں؛ مگر جگ جگ روشن ہے کہ اس موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی بابت کیا مولوی، کیا حکیم، کیا فلسفی، کیا منطقی کسی کو کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔

اس کتاب میں کیا کچھ پہنچاں ہے وہ تو اس کے مطالعہ کے دوران آپ پر خود منکشف ہو جائے گا؛ تاہم ہم نے متن کا سلسلیں وروال ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ آیات و احادیث کے علاوہ بزرگان دین کے اقوال اور اشعار کو اصل عربی زبان میں درج کرنے کی بھی سعی کی ہے تاکہ اُن کی نورانیت و برکت قائم رہنے کے ساتھ ساتھ عربی ادب سے شغف رکھنے والوں کے ذوق و شوق کی تسلیم کا سامان بھی ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

طالب عفو و کرم

ابورفقہ محمد افروز قادری چریا کوٹی

دلائی یونیورسٹی، کیپ ناؤن، جنوب افریقہ..... ۲۲ ربیع الآخر ۱۴۳۰ھ، مطابق: ۱۸ اپریل ۲۰۰۹ء

بسم اللہ الرحمن الرحيم

مقدمہ از مؤلف :

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

اس کتاب کو میں نے ”بشری الکنیب بلقاء الحبیب“ کے نام سے موسم کیا ہے، اور درحقیقت یہ آحوالی بزرخ سے متعلق میری تحریر کردہ ایک دوسری مختینم کتاب کی تلخیص ہے۔ اس کتاب میں میں نے اُن بشارتوں اور مژدہاے جان فزا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے جو اکرام و مبارک باد کے طور پر مردمون کو اس دنیاے فانی سے کوچ کرتے وقت، اور اُس کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔

موت، حیات سے بہتر ہے

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

تحفة المؤمن من الموت . (۱)

یعنی ایک مرد مومن کے لیے موت بہترین تحفہ ہے۔

(۱) مکملۃ المصانع: ۳۲۳ / ۱ حدیث: ۱۲۰۹..... مسندرک: ۲۷۲ / ۱۸ شعبہ الایمان: ۱ / ۲۰ شعبہ الایمان: ۱ / ۲۵۵ حدیث: ۹۵۳ مسندر عبد بن حمید: ۱ / ۳۸۵ مسندر شہاب تھاگی: ۱ / ۳۲۹ الزہد والرقائق ابن مبارک: ۲ / ۱۲۱ المطالب العالية: ۳ / ۵۸۸ حدیث: ۱۲۳ ۹۳ ۲۲۲ ۲۲۵ ۸۲۳ مجموع الرذائل: ۱ / ۱۵ کنز العمال: ۱ / ۵ ۳۲۱۰

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الموت ریحانة المؤمن . (۱)

یعنی موت، مومن کے لیے کسی بچوں (یا گلستہ) کی مانند ہے (جو تختہ کے طور پر کسی کو پیش کیا جاتا ہے)۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الموت غنیمة المؤمن .

موت، اہل ایمان کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہوتی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر وابن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الْدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ سَنَّتُهُ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَ
السَّنَّةَ . (۲)

یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور قحط زدہ مقام کی مانند ہے؛ توجب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا اسے قید خانہ اور مقام خنک سالی سے رہائی مل جاتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

(۱) کشف الخفاء: ۱/۲۹۷ حدیث: ۹۳۸..... کنز العمال: ۱۵/۵۵۱ حدیث: ۳۲۱۳۶۔

(۲) مکملۃ المصانع: ۳/۱۳۷ حدیث: ۵۲۹..... مندرجہ: ۱۲/۹۸ حدیث: ۲۵۶۰..... متدرب حاکم: ۱۸/۲۵۳ حدیث: ۲۹۹۵..... الزرید والرقائق: ۲/۱۲۰ حدیث: ۵۸۷..... القاصد الحسی: ۱/۱۸..... کشف الخفاء: ۱/۳۱۸..... کنز العمال: ۳/۱۸۵..... مجمع الزوائد: ۲۰۸۲..... مندرجہ: ۱۰/۲۸۸..... مندرجہ: ۱/۳۱۱ حدیث: ۱۳۱۸.....

جامی: ۲/۲۷ حدیث: ۸۷۲۸۔

الدنيا جنة الكافر و سجن المؤمن، وإنما مثل المؤمن حين
تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فآخر منه، فجعل
يُقلّب في الأرض ويتسخ فيها .

یعنی دنیا کافر کی جنت اور مون کا جبل ہے۔ اور ایک مرد مون کی روح ایسے
ہی لکھتی ہے جیسے کہ کسی کوجل سے رہا کیا جا رہا ہو؛ پھر وہ (ناز سے) زمین پر
لوٹنے لگتی ہے اور آزادی سے سیر و سیاحت کرتی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا :

الدنيا سجن المؤمن، فإذا مات يخلع سربه يسرح حيث يشاء

یعنی دنیا چونکہ مون کا قید خانہ تھی؛ پس جب وہ مرد مون انتقال کر جاتا ہے تو
دنیا کے چنگل سے آزاد ہو کر جہاں چاہتا ہے سیر کرتا پھرتا ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

الموت تحفة لكل مسلم .

یعنی موت ہر مسلمان (مرد و عورت) کے لیے ہدیہ و تقدیر ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا :

الموت كفارة لكل مسلم .

یعنی موت ہر مسلمان (مرد و عورت کے گناہوں کا) کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت ربع بن خشم فرماتے ہیں :

ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت .

یعنی ایک مردِ مومن کے لیے موت کے انتظار سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

حضرت مالک بن مغول نے فرمایا :

بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن الموت، لما يرى من كرامة الله تعالى وثوابه .

یعنی (معتبر ذرائع سے) مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ مومن کا دل سب سے پہلے جس مسرت و سرور کو محسوس کرے گا وہ موت ہو گی، کیوں کہ وہ اس کے بعد اللہ کی نعمت و کرامت اور اس کے آجر و ثواب کو ملاحظہ کرے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں :

ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله .

یعنی ایک مردِ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کیے بغیر راحت و چین میسر ہی نہیں آ سکتا۔

حضرت ابو درداء رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں :

ما من مؤمن إلا و الموت خير له، وما من كافر إلا و الموت
شر له، فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
لِلْأُبْرَارِ (۱) . ويقول: وَ لَا يُحْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ
خَيْرٌ . (۲)

یعنی موت، ہر مومن کے لیے سوغاتی خیر ہے، اور ہر کافر کے لیے سامان شر ہے۔ اگر کسی کو میری اس بات سے اتفاق نہیں تو (کوئی بات نہیں) فرمان باری

(۱) سورة آل عمران: ۱۹۸ / ۳۔ (۲) سورة آل عمران: ۱۷۸ / ۳۔

تعالیٰ دیکھیں: ”جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا“، نیز ارشاد ہوا: ”اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انھیں مہلت دے رہے ہیں (یہ) ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں :

ما من بِرٌ وَ لَا فاجِرٌ إِلَّا وَ الْمُوْتُ خَيْرٌ لِهِ مِنَ الْحَيَاةِ، إِنْ كَانَ بِرًا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ^(۱) وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْذَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمِّينَ^(۲)

یعنی موت ہر کسی کے لیے اس کی زندگی سے بہتر ہے چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر اس کے لیے اس ارشاد خداوندی میں مژده ہے: ”جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا“۔ اور اگر بدکار ہے تو پھر اس کے لیے اس فرمانِ الہی میں تعمیہ ہے: ”اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انھیں مہلت دے رہے ہیں (یہ) ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو (یہ) مہلت انھیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے (بالآخر) ذلت آمیز عذاب ہے۔“

حضرت ابوالک اشعری سے مروی کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اللَّهُمَّ حَبِّبْ الْمَوْتَ إِلَيَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُكَ.^(۲)

(۱) سورہ آل عمران: ۱۹۸/۳۔ (۲) سورہ آل عمران: ۱۷۸/۳۔

(۳) مجمع کیر طبرانی: ۳۲۸/۳..... منڈ شامیں: ۵/۳۲۷..... محدث شافعی: ۳۰۲/۵..... مجمع الزوائد: ۱۶۵۳..... کنز العمال: ۲۰۲/۲..... ۳۷۲..... ۳۹۸

یعنی اے پروردگار! جسے میری رسالت پر ایمان و یقین ہے اس کے دل میں
موت کی محبت چاہ گزیں فرمادے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
ان حفظت وصیتی فلا یکون شیء أحب إلیک من الموت .

یعنی میری وصیت وصیحت اگر تمہارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر (سبحانہ وکہ)
تمہاری نگاہ میں موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوگی۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

ما أهداي إلي أخ هدية أحب إلي من السلام، ولا بلغني عنه
خبر أحب من موته .

یعنی کسی برادر دینی کے سلام سے بڑھ کر کوئی تختہ مجھے محبوب نہیں۔ نیز کسی
اسلامی بھائی کی موت کی خبر سے بڑھ کر کوئی خبر مجھے پیاری نہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

أتمنى لحبيبي أن يعجل موته .

یعنی میں اپنے دوست کے لیے جلد آنے والی موت کا آرزو مند ہوں۔

حضرت محمد بن عبد العزیز تیمی فرماتے ہیں :

فَيْلَ لِعَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ: مَا تَشْتَهِي لِنَفْسِكَ وَلَمَنْ تُحِبَّ مِنْ
أهْلَك؟ قَالَ: الْمَوْتُ .

یعنی حضرت عبد الأعلى تیمی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے
ہیں اور اپنے اہل کے لیے کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا: (صرف اور صرف)
موت کو۔

حضرت ابن عبید اللہ حضرت مکھول سے پوچھتے ہیں :

أَتْحِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: وَمَنْ لَا يَحِبُّ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَأَحَبُّ الْمَوْتَ.
فَإِنَّكَ لَنْ تَرَى الْجَنَّةَ حَتَّى تَمُوتَ.

یعنی کیا آپ جنت کے آرزومند ہیں؟ کہا۔ بھلا جنت میں کون نہیں جانا چاہے
گا!۔ فرمایا: تو پھر موت سے محبت کرنا سیکھ لے؛ کیوں کہ دریاۓ موت عبور کیے
بغیر تم دیدار جنت نہیں کر سکتے۔

حضرت حبان بن اسود فرماتے ہیں :

الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب .

یعنی موت کتنا بہترین (پل ہے) جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک
پہنچادیتا ہے۔

حضرت مسروق نے ارشاد فرمایا :

مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنْ لَهْدٍ، فَمَنْ لَهْدٌ فَقَدْ أَسْتَرَاحَ مِنْ
هُمُومِ الدُّنْيَا وَ أَمْنٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ .

یعنی ایک مومن کے لیے لحد (اور قبر) سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں؛ کیوں کہ
جسے درگور کر دیا گیا اسے دنیا کے فکر و غم سے نجات مل گئی اور عذابِ الہی سے آمان
نصیب ہو گیا۔

حضرت طاؤس فرماتے ہیں :

لَا يَحْرُزُ دِينَ الرَّجُلِ إِلَّا حَفْرَتَهُ .

یعنی ایک انسان کا دین صرف اس کی قبر ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔

حضرت عطیہ فرماتے ہیں :

أنعم الناس جسداً في لحد قد أمن من العذاب .

یعنی انسان کا جسم سب سے زیادہ قبر میں آرام پاتا ہے کہ جہاں وہ عذاب سے مامون و محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں :

کان یقال للموت راحة للعابدين .

یعنی موت کو ارباب زہد و عبادت کی آسائش و راحت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ربیعہ بن زہیر فرماتے ہیں :

قیل لسفیان الثوری کم تتمنی الموت، وقد نهی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: لو سأله ربي لقلت يا رب لشقتی بک و خوفی من الناس کانی لو خالفت واحداً فقلت حلوة، وقال: مرة لخفت أن يتعاطى دمي .

یعنی ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ آپ موت کی اتنی تمنا کیوں کرتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ فرمایا: اگر یہی سوال پروردگار نے مجھ سے کر دیا تو میں کہوں گا: اے پروردگار! تیری ذات پر اعتماد کامل اور لوگوں کی ڈرکی وجہ سے (میں موت کی تمنا کیا کرتا تھا) گویا کہ اگر کوئی میری مخالفت کرے تو میں یہ کہوں گا کہ شیریں بات کہی ہے اور کڑوی کہوں تو مجھے خوف زده رہنا چاہیے کہ کہیں وہ میرا خون نہ بہا دے۔

حضرت خطابی فرماتے ہیں کہ ہمارے کسی دوست نے منصور بن اسماعیل کے سامنے یہ آشعار پڑھے۔

إِذَا مَدْحُوا الْحَيَاةَ فَأَكْثُرُوا ● فِي الْمَوْتِ أَلْفَ فَضْيَلَةً لَا تَعْرُفُ
مِنْهَا أَمَانٌ لِقَائِهِ بِلِقَائِهِ ● وَفَرَاقٌ كُلُّ مَعَاشِرٍ لَا يَنْصُفُ
لِيَقْنُونِ جَبَ تَمَّ زَنْدَگَى كَيْ اَتَى تَعْرِيفٍ وَتَوْصِيفٍ كَيْ جَارَ هَيْ هُوَ مَوْتٌ كَيْ تَوَسَّ
سَتَهْزَأَ رَغْنَازِ يَادَهُ فَضَائِلَ وَمَنَاقِبَ بِيَانِ كَرْنَےِ چَائِئِينَ -

کیوں کہ موت کے باعث محبوب سے شوق ملاقات کی حسرتیں پوری ہو جاتی
ہیں۔ اور ایک ایسے معاشرے سے نجات مل جاتی ہے جس میں حق و انصاف
نہیں ہے۔

اس پر حضرت خطابی نے فرمایا :

يَسْكِي الرَّجَالَ عَلَى الْحَيَاةِ وَقَدْ ● أَفْنِي دَمْوَعِي شُوقِي إِلَى الْأَجْلِ
أَمْوَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّ الدَّهْرَ يَعْثُرُ بِي ● فَإِنِّي أَبْدَأْ مِنْهُ عَلَى وَجْلٍ
لِيَقْنُونِ لَوْكُوْنَ كَا حَالٍ يَهْيَ كَهْ زَيْادَهُ جَيْنَيْنَ كَلِيْهِ اِنْكَرِيزِيَاْنَ كَرْتَهِ رَهْتَهِ
ہیں۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ موت کی شوق ملاقات نے آنسوؤں کا سارا سوتا خشک
کر کے رکھ دیا ہے۔

خدا کرے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں کہ لوگ مجھے ٹھکرائیں؛ بس مجھے تو
ہمیشہ اسی کا کھکا لگا رہتا ہے۔

موت! تنگ گھر سے کشادہ گھر کا سفر

علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت نہ تو مکمل مٹاٹی ہے اور نہ ہی مکمل فنا کرتی ہے، بلکہ
وہ تو صرف روح کے تعلق کو بدن سے منقطع کر دیتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان فصل و
جدائی کی خلیج کھود دیتی ہے۔ بس حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک گھر سے دوسرے

گھر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔

حضرت بلاں بن سعد فرماتے ہیں :

إنكم لم تخلقوالفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار .

یعنی تمہیں (بیشہ کے لیے) فنا کے گھاٹ اُتار دینے کے لیے نہیں تخلیق کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں بیشہ آبدالآباد تک باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن (ہاں موت سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ) تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہو۔

حضرت ابن قاسم نے فرمایا :

للنفس أربعة دور كل دار أعظم من التي قبلها .

الأولى: بطن الأم، وذلك محل الضيق والحصر والغم والظلمات الثلاث .

والثاني: هي الدار التي أنشأتها وألفتها واكتسبت فيها الشر والخير .

والثالثة: هي دار البرزخ وهو أوسع من هذه الدار وأعظم ونسبة هذا الدار إليها كسبة البطن إلى هذه .

والرابعة: هي دار القرار الجنة أو النار، ولها في كل دار من هذه الدور حكم و شأن غير شأن الأخرى -انتهی-

یعنی جان چار مرحلوں سے گزرتی ہے، اور ہر مرحلہ گز شترہ مرحلہ سے بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔

پہلا مرحلہ: شکم مادر۔ نہایت بُنگی و قبض کی جگہ، جہاں ظلمت و غم اور تہری تاریکیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

دوسری مرحلہ: (دنیا) جہاں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی، البتہ محبت قائم ہوئی اور جہاں اس نے اچھائی و برائی کے کام سرانجام دیے۔

تیسرا مرحلہ: بزرگی زندگی، جو کہ دنیا سے کہیں زیادہ وسیع و عظیم ہوتی ہے۔ اور اس دنیا کی نسبت اُس بزرگی دنیا سے ایسی ہی ہے جیسے شکم مادر۔

چوتھا مرحلہ: ہیئت کا گھر، اب وہ جنت ہو یا جہنم۔ ان گھروں کے مقابلے میں اُس کی شان و شوکت اور آن بان کچھ اور ہی ہے۔

مراہل حضرت سلیم بن عامر حباری میں مرفوعاً نقل ہے :

إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرججه، حتى إذا رأى الضوء ورضع لم يحب أن يرجع إلى مكانه، وكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا مضى إلى ربـه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لم يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه .

یعنی مومن کی مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسے بچہ رحم مادر میں کہ جب وہ ماں کے شکم سے نکلتا ہے تو ورنے لگتا ہے پھر جب روشنی سے واسطہ پڑتا ہے اور کھانے پینے لگتا ہے تو اب پھر دوبارہ پلٹ کر اس جگہ (شکم مادر میں) جانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن، موت سے ڈرتا رہتا ہے پھر جب وہ اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے تو پھر اس دنیا میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ بالکل ایسی ہی جیسے بچہ دوبارہ اپنی ماں کے رحم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا :

ما شبهت خروج ابن آدم من الدنيا إلا كمثل خروج الصبي
من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا.

یعنی بنی آدم کے اس دنیا سے کوچ کرنے کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہوتی ہے
جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے تیرہ و تارہ کم سے نکل کر فضائے دنیا میں آتا ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ما على الأرض من نفس تموت و لها عند الله خير تحب أن
ترجع إليكم و لها نعيم الدنيا و ما فيها .

یعنی روئے زمین پر موجود انسانوں میں جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے
اللہ کے پاس کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہوتی ہے۔ وہ انسان پھر تمہاری طرف پلٹ کر
جانا چاہتا ہے حالانکہ وہاں اُسے دنیا و مافیہا کی ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔

بوقت موت بندہ مومن پر نوازشیں

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَ إِقْبَالٍ عَلَى
الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِيَضِّ الْوَجْهِ، كَأَنْ وَجْهَهُمْ
الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَ حَنَوْطٌ مِّنْ حَنَوْطِ الْجَنَّةِ
حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجْيِءُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَجْلِسُ عَنْ
رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيْتَهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَةُ أَخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ وَ
رَضْوَانِ فَتَخْرُجَ تَسْيِلَ كَمَا تَسْيِلَ الْقَطْرَةَ مِنَ السَّقاءِ، وَ إِنْ
كُنْتُمْ تَرَوْنَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَخْرُجُونَهَا إِذَا أَخْرَجُوهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي

يده طرفة عين، فيجعلونها في تلك الأكفان والحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فيعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك و ما دينك؟ فيقول: الله ربى و الإسلام ديني، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث إليكم و فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ، فيقولان له: و ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى و آمنت به و صدقته، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة، و ألبسوه من الجنة، وفتحوا له باباً إلى الجنة، فيأتيه من ريحها و طيبها و يفسح له في قبره مد بصره، و يأتيه رجل حسن الشياط طيب الرائحة فيقول له: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي و مالي . (١)

(١) مکملة المصانع: ٣٢٨/١.....منداحم: ١٢٣.....٣٩٠/٣٧.....مضف ابن أبي شيبة: ٢٥٢/٣.....تهذیب الآثار طبری: ٢١٣/٢.....الروى على الجھیۃ داری: ١/٥٧.....حدیث: ٥٣.....الزہد لہناد بن سری: ٢٣٧.....الشیریہ آجری: ٣٥٢/٢.....حدیث: ٣٣٣.....جعی الزوائد: ٣٩/٣.....مند جامع: ٢٣١/٢.....حدیث: ١٧٢٦.....٨٥٧

یعنی بندہ مومن کے اس دنیا سے چل چلاو کا جب وقت آ جاتا ہے اور وہ سفر
آخرت پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آسمان سے آفتاب کی مانند
درخشاں چھروں والے فرشتے اپنے ساتھ و جنتی کفن، اور بہشتی خوبصورت کراس
کے پاس آتے ہیں، اور ایک لمحہ کے لیے اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک
الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: اے اطمینان پا جانے والی
جان! اللہ کی مغفرت و رضوان کی طرف نکل چل۔ تو وہ مشک سے رستے ہوئے
پانی کی طرح رستی ہوئی نکلتی ہے۔ اگر تم ان فرشتوں کو اس مرنے والے کے سوا
دیکھو تو انھیں نکال دو۔ پھر وہ روح کو نکال لیتے ہیں، نکلنے کے بعد پک جھکنے کے
برا بروہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور خوبصورت کروہ اس کی تکفین کرتے ہیں،
اب اس سے ایسی خوبصورتی ہے کہ شاید پورے روئے زمین پر کہیں ایسی
خوبصورت وجود نہ ہو۔ پھر اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اب فرشتوں کے جس گروہ
سے گزرتے ہیں وہ پوچھا اٹھتے ہیں: یہ یعنی سہانی خوبصورتی ہے؟ تو وہ نہایت ہی
ادب و احترام کے ساتھ دنیا میں اس کے پکارے جانے والے نام کو لے
کر فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان پر اور
پھر وہاں سے ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اس
کا نامہ اعمال علیین میں لکھ کر اسے زمین کی طرف لوٹا دو؛ اس طرح اس کی روح
دوبارہ اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔

اب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیرارب
کون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: اللہ میرارب ہے۔ اور اسلام میرا
دین ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں: اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو
تمہاری طرف مبعوث ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں: تمہیں یہ کس طرح علم ہوا؟ وہ کہتا ہے: ہاں میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اب آسمان کی بلندیوں سے یہ ندا آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے جنتی فرش بچھادو، اسے بہشتی جوڑے پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کو جاتا ہوا ایک راستہ کھول دو، تاکہ اسے جنت کی ہوا خوشبوطی رہے۔ اور پھر تاحد نظر اس کی قبر و سعی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک خوش پوش شخص آ کر کہتا ہے: اب جیسے چاہو خوشیاں مناؤ۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا۔ وہ پوچھتا ہے: - اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ وہ کہتا ہے: میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ (یہ سن کرو وہ) پکارا ملتا ہے: اے پروردگار! قیامت برپا فرمادے۔ اے پروردگار! قیامت پا کر دے تاکہ میں اپنے انجام کو پہنچ سکوں۔

حضرت ابن ابی الدنیار ضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا احْتَضَرَ وَرَأَى مَا أَعْدَ اللَّهُ لَهُ جَعَلَ يَتَهَوَّعُ نَفْسَهُ
مِنَ الْحَرْصِ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ فَهُنَاكَ أَحَبُّ لِقاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهِ
لِقاءً، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ وَرَأَى مَا أَعْدَ اللَّهُ لَهُ جَعَلَ يَتَبَلَّغُ نَفْسَهُ
كُراهِيَّةً أَنْ تَخْرُجَ، فَهُنَاكَ كَرِهُ لِقاءَ اللَّهِ وَكَرِهُ اللَّهُ لِقاءً.

یعنی جب مومن کے (اس دنیا سے) چل چلا وہ کا وقت آپنپتا ہے اور وہ اپنے لیے اللہ کی تیارہ کردہ چیزوں کو (سر کی آنکھوں سے) دیکھ لیتا ہے تو وہ (یہاں سے جلد از جلد) نکلنے کی جی توڑ کوشش کرتا ہے؛ کیوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں بے تاب ہوتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور جب کسی

کافر کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا جی (بہاں سے کسی طور) نکلنے کو تیار نہیں ہوتا؛ کیوں کہ وہ (اپنے برے کرتوں کے باعث) اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اور نہ اللہ ہی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔

حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے، وہ ابن الحزرجی سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسولِ اکرم نورِ جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ فرماتے ہوئے سن اجب کہ آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری شخص کے سر ہانے بیٹھے ہوئے دیکھا :

يا ملک الموت ارفق بصاحبی فإنه مؤمن، فقال ملک الموت: طب نفساً و قر عيناً و اعلم أني بكل مؤمن رفيق.

یعنی اے ملک الموت! میرے اس صحابی سے نرمی و مہربانی کے ساتھ پیش آ؛ کیوں کہ اس کا دل نورِ ایمان سے منور ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا: اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کی چشم ان مبارک ٹھنڈی رہیں۔ آپ کو اس بات کا علم الیقین کر لینا چاہیے کہ میں ہر مومن سے رفاقت رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مہربانی ہی کا معاملہ کرتا ہوں۔

حضرت کعب سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا: مجھے تم اپنی وہ شکل دکھاؤ جس میں تم کسی مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہو، چنانچہ ملک الموت نہایت دلکش و پرکش انداز میں ان کے سامنے جلوہ کنائ ہوئے۔ (یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے) فرمایا :

لولم ير المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان تكفيه.

یعنی ایک مومن اگر اپنی جانکنی کے عالم میں دیدہ و دل کو تسلیم فراہم کرنے والی اور کوئی عزت و کرامت نہ بھی دیکھے، صرف آپ کو اس صورت میں دیکھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو گی (اسے مزید کسی چیز کی حاجت نہ رہے گی)۔

حضرت خماک فرماتے ہیں :

إِذَا قَبْضَ رُوحُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ فَيَنْطَلِقُ مَعَهُ
الْمَقْرُبُونَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الثَّانِيَةِ، ثُمَّ إِلَى الثَّالِثَةِ، ثُمَّ إِلَى الرَّابِعَةِ،
ثُمَّ إِلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ إِلَى السَّادِسَةِ، ثُمَّ إِلَى السَّابِعَةِ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ
إِلَى سَدْرَةِ الْمَنْتَهَى فَيَقُولُونَ: رَبُّنَا عَبْدُكَ فَلَانُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ،
فَيَأْتِيهِ صَكٌ مُخْتَرٌ مَا بِأَمَانَهُ مِنَ الْعَذَابِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: كَلَّا
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلْيَيْنَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ، كِتَابٌ مَرْفُومٌ
يَشَهِّدُ الْمُقْرَبُونَ ۝ (سورة مطففين: ۸۳-۹۲)

یعنی جب کسی بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اسے اپنی جلو میں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر تیسرا پر، پھر پانچویں پر، پھر چھٹویں پر، پھر ساتویں پر حتیٰ کہ وہ اسے لے کر سدرۃ lantern تک پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: اے پور دگار! تیرے فلاں بندہ (کی روح) حاضر ہے۔ حالاں کہ اللہ اس سے اچھی طرف واقف ہوتا ہے۔ پھر عذاب سے رہائی کا ایک سرہ نامہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بھی مطلب ہے اس ارشادِ الہی کا: یہ (بھی) حق ہے کہ بے شک نیکو کاروں کا نوشۂ اعمال علیین (یعنی دیوان خانہ جنت) میں ہے۔ اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ یہ (جنت کے اعلیٰ درجہ میں اس بڑے دیوان کے اندر) لکھی ہوئی (ایک) کتاب ہے (جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال

درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے)۔ اس جگہ (اللہ کے) مقرب فرشتے حاضر ہتے ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، وَإِدْبَارٍ مِّنَ الدُّنْيَا نَزَلَ مَلَائِكَةٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ كَأَنَّهُمْ وَجْهَهُمُ الشَّمْسُ بِكَفْنِهِ وَ حَنْوَطُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَقْعُدُونَ حِيثُ يَنْظَرُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . (۱)

یعنی ایک مرد مؤمن جب دنیا کو پیچھے دکھا کر سفر آخرت کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اس وقت آفتاب صورت فرشتے آسمان سے جنتی خوشبو کفن لے کر اترتے ہیں، اور اس کے پاس آ کر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ وہ مرد مؤمن انھیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے لیے خیر و عافیت نزولی رحمت اور ترقی درجات کی دعا میں کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَبَضَ أَنْتَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بِيَضَاءِ فَتَخْرُجُ كَالْطَّيِّبِ وَأَطْيَبِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ حَتَّى إِنَّهُ يَنَاوِلُهُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فَيَسْمُونُهُ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ لَهُ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ بَابَ السَّمَاوَاتِ فَيَقُولُونَ: مَا هَذَا الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ؟ وَ كَلَمًا أَتَوْ سَمَاءً قَالُوا مَثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَرْوَاحُ

(۱) مسند احمد بن حنبل: ۵۹/۳۸؛ حدیث: ۲۷۸۷؛ مصنف عبد الرزاق: ۵۸۰/۳؛ حدیث: ۶۷۳۷.....
تہذیب الآثار طبری: ۲۲۲/۲؛ حدیث: ۱۸۱؛ النـ عبد اللـ بن اـ حـمـ: ۳۶۲/۳؛ حدیث: ۱۳۱۶۔

المؤمنین فلم یکن لهم فرح أفرح من أحدهم عند لقائه، و لا قدم
علی أحد كما قدم علیهم، فیسألونه ما فعل فلان بن فلان؟

فیقولون : دعوه حتی یستريح فإنه كان في غم الدنيا. (۱)

یعنی جب کسی بندہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کے پاس فرشتگان رحمت سفید ریشمی جوڑے میں حاضر ہوتے ہیں، (اس مومن کی) روح (اس کے جسد خاکی) سے نکلتے وقت بوئے مشک سے کہیں زیادہ خوشبودار ہوتی ہے، پھر فرشتے روح کی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور بہترین ناموں کے ساتھ تعارف کرتے ہیں۔ پھر اسے لے کر وہ آسمان اول پر پہنچتے ہیں جہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج زمین سے یہ کیسی بھی بھینی خوشبو آرہی ہے؟ اسی طرح وہ جس آسمان پر بھی پہنچتے ہیں کچھ یہی سوال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے لے کر مومنوں کی روحوں کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ روحیں اس سے مل کر اس قدر خوش ہوتی ہیں کہ شاید ہی کسی اور چیز سے کبھی انھیں اتنی خوشی محسوس ہوئی ہو، اور جس طرح وہ اس کا خیر مقدم کرتی ہیں کہ شاید کسی اور کا ایسا کبھی خیر مقدم کیا ہو۔ اب وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں کہ ذرا بتاؤ فلاں بن فلاں کیسا تھا، کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتی ہے: اسے بلا یا گیا اور اس نے دنیا کے غموں سے سلامتی کے ساتھ جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں: اسے ذرا مهلت دو کہ کچھ آرام کر لے کیوں کہ یہ روح دنیا کے غم کدے سے آ رہی ہے۔

حضرت براء بن عازب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

(۱) صحیح بن حبان: ۲۳/۱۳ حدیث: ۳۰۷۸..... موارد اظہار: ۱/۱۸۷۔

إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسک و
عنبر وريحان فتسيل روحه كما تسلي الشعرا من العجين، و
يقال: أيتها النفس المطمئنة اخرجي راضية مرضيا عليك إلى
روح الله وكرامته، فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك
المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وذهب به إلى
عليين . (١)

لیکن جب بندہ مون کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے
پاس فرشتے ایک ریشمی ٹکڑے میں مشک و عنبر اور روحانی رزق واستراحت (کا
سامان) لے کر حاضر ہوتے ہیں، پس اس کی روح ایسے ہی (آسانی کے ساتھ)
نکل جاتی ہے جس طرح بال، گندھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس
سے کہا جاتا ہے: اے اطمینان پاجانے والے نفس! تو اپنے رب کی رحمت و کرامت
کی طرف اس حال میں نکل کر تو اس کی رضا کا طالب بھی ہوا اور اس کا مطلوب بھی۔
جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر مشک و ریحان کو چھڑک دیا جاتا ہے
اور پھر اسے ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر علیین میں بھیج دیا جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ”وَ السَّابِحَاتِ سَبُّحًا“ کی تفسیر
کرتے ہوئے فرمایا :

أرواح المؤمنين لما عاينت ملک الموت قال: اخرجي أيتها
النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، سبحت
سبح الغائب في الماء فرحا وشوقا إلى الجنة (فالسابقات سبّقَها)
يعني تمشي إلى كرامة الله عزوجل .

(١) *مختصر احادیث الاحیاء*: ٢٣١ / ٦ حدیث: ٢٣٣ -

یعنی ملک الموت جب مونوں کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں: اے اطمینان پا جانے والی جان! اب تو سرور فرحت، روحانی رزق واستراحت اور راضی رب کی طرف نکل چل؛ کیوں کہ تو نے غرق آب ہونے والے کی طرح جنت پانے کی لگن اور اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں ڈوب کر عبادت و بندگی کی ہے۔ ”فالسابقات سبقاً“ تواب چل آگے بڑھ اور اللہ کی عزت و کرامت (میں حصہ بٹانے میں سبقت مار لے جا)۔

حضرت عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر موت طاری کرتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتوں کو نہشی خوبیو اور حملے کر بھیتا ہے، وہ کہتے ہیں: اے اطمینان پا جانے والی جان! چل سرور فرحت، روحانی رزق واستراحت اور راضی رب کی طرف نکل چل۔ چل دیکھ تو نے کتنے اچھے اعمال آگے بھیج رکھے ہیں۔ تو وہ روح مشک سے کہیں زیادہ خوبیو دار شکل میں (جسد خاکی سے) نکلے گی۔

(جب اوپر جائے گی تو) آسمان کے کناروں پر کھڑے فرشتے کہیں گے: واہ سجان اللہ! آج ہمیں زمین سے کتنی پیاری خوبیو محسوس ہوئی ہے، اب وہ جس دروازے سے بھی گزرے گی وہ کھلتا چلا جائے گا، اور ہر فرشتے اس کو دعا نہیں دے رہا ہوگا، اسی طرح وہ فرشتوں کی مشایعت میں چلتی چلتی حضورِ إله میں جا پہنچے گی، فرشتے حق تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر کر عرض کریں گے: مولا! یہ تیرافلاں بندہ ہے جس کی روح ہم نے قبض کر لی ہے اور اس کا تجھے پورا پورا علم بھی ہے، تو اللہ فرمائے گا: اسے سجدہ کرنے کے لیے کہو چنانچہ وہ روح سجدے میں گر پڑے گی۔

پھر حضرت میکائیل کو بلا کر کہا جائے گا: اس روح کو مونوں کی روحوں میں شامل کرو، اور قیامت کے دن تم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ پھر اس کی قبر کے لیے (خصوصی) حکم جاری ہوگا تو وہ طول و عرض میں ستر ستر گز پھیل کر کشادہ ہو جائے گی۔

پھر اس میں ریشم دیبا بچایا جائے گا۔ اب اگر اس کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہو گا تو وہ قبر میں روشنی کا کام دے گا، ورنہ (غیب سے) اُس کے لیے آفتاب کی سی روشنی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ اپنی بہشتی رہائش گاہ کا صبح و شام نظارہ کرتا رہے گا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی قضا آتی ہے تو پانچ سو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، پھر اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا پر بچھتے ہیں جہاں اس کی ملاقات پہلے سے آئی ہوئی مومنوں کی روحوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ روحیں اس سے کچھ خیرو خبر معلوم کرنا چاہتی ہیں مگر فرشتے کہتے ہیں: اس پر ذرا رحم کرو کیوں کہ یہ دنیا سے بڑے بڑے درد و کرب سہ کر آ رہی ہے۔ پھر وہ اس سے لوگوں کے احوال پوچھتی ہیں، تو وہ روح انھیں ان کے بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہتی ہے: وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسا تم انھیں چھوڑ کر آئے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ الشعري رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ وہ مشک سے کہیں زیادہ پاکیزہ خوشبو میں بسی ہوتی ہے، پھر فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں جہاں کچھ دوسرے آسمانی فرشتے دریافت کرتے ہیں: تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں: فلاں اور اس کی حسن کا رکردگی اور عمل خیر کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔

اس پر وہ کہتے ہیں: اللہ تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ہے سلامت رکھ۔ پھر اس کے لیے آسمانی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ فرشتے اسے لے کر اسی دروازے سے چڑھتے ہیں جس میں اس کا عمل ہوتا ہے چنانچہ اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ پھر جب اسے حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا آفتاب کی مانند چمکتا ہوا چہرہ (اس کے نیکو کار ہونے کی) دلیل کا کام کرتا ہے۔

حضرت خحاک ارشاد باری تعالیٰ ”وَ النَّفْتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ“ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

الناس یجهزوں بدنه، والملائکة یجهزوں روحہ .

یعنی لوگ مردے کے جسم و بدن کی آرائش وزیبائش میں مصروف ہیں حالانکہ فرشتے اس کی روح کو سنوارنے نکھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ اس کی کچھ نیک علامتیں اور آثار نہیں دیکھ لیتا۔

پھر جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو ایک آواز پھوٹی ہے جسے انسان و جنات کے علاوہ گھر کے اندر موجود سارے چھوٹے بڑے جانور اور چوپائے سنتے ہیں کہ مجھے ارم الراحمین پروردگار کے پاس جلدی لے کر چلو۔

پھر جب اسے تنختر پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے : اتنی دیر کیوں ہے چلتے کیوں نہیں؟ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو (اٹھانے والے آکر) اُسے اٹھاتے ہیں، پھر وہ جنت میں اپنی رہائش اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اس پر نگاہیں جمالیتیا ہے۔ ساتھ ہی اس کی قبر مشک و عنبر، فرحت و سرور اور روحانی رزق و استراحت سے بھر دی جاتی ہے۔

اب وہ عرض کرتا ہے : اے پروردگار! مجھے آگے جانے کی اجازت دے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے : تمہارے کچھ بھائی اور بھینیں ابھی نہیں پہنچ ہیں، (ان کے آنے تک) چین کی نیدرسوٹا کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔

حضرت ابن جریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا :

إِذَا عَاهَنَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا نَرْجِعُكَ إِلَى الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ
إِلَى دَارِ الْهَمُومِ وَالْأَحْزَانِ، قَدْمَانِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

یعنی جب فرشتے بندہ موسن کے پاس (قبر میں اس کی زیارت کرنے) آتے ہیں تو کہتے ہیں: کیا دنیا میں جانا چاہو گے؟ تو وہ کہتا ہے: کیا تم حزن و کرب کے گھر میں (دوارہ) جانے کی بات کر رہے ہو، (نہیں بلکہ) مجھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کی زحمت کرو۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

تَخْرُجُ رُوحِ الْمُؤْمِنِ فِي رِيحَانَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ "فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ
الْمُقْرَبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ" (۱)

یعنی موسن کی روح پھول اور خوبی کی شکل میں نکلتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: پھر اگر وہ (وفات پانے والا) مقربین میں سے تھا تو (اس کے لیے) سرور و فرحت اور روحانی رزق واستراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے۔

حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ ”فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ روح و ریحان یہ دونوں بندہ موسن کی موت کے وقت اسے پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت بکر بن عبد اللہ فرماتے ہیں :

إِذَا أَمْرَ مَلْكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ أَتَى بِرِيَحَانَ مِنَ
الْجَنَّةِ، فَقَبِيلٌ لَهُ أَقْبَضَ رُوحَهُ فِيهِ.

(۱) سورہ واقعہ: ۵۲۔ ۸۹۶۸۸۔

یعنی جب ملک الموت کو کسی بندہ مومن کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جنت کی خوبیوں کے کر آتے ہیں جس میں وہ اس بندے کی روح قبض کرتے ہیں۔

حضرت ابو عمران الجوني فرماتے ہیں :

بلغنا أن المؤمن إذا حضر أتى بضيائِ الريحان من الجنة
فيجعل روحه فيها .

یعنی (معتبر ذرائع سے) ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب مرد مومن کی وفات کا وقت آپنچتا ہے تو (فرشته) جنت سے خوبیوں کا ایک خصوصی گذشتہ ساتھ لاتے ہیں تاکہ اس میں اس کی روح کو محفوظ رکھ سکیں۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں :

تنزع روح المؤمن في حريرة من حرير الجنة .

یعنی بندہ مومن کی روح جنت کے ریشمی پارچوں میں نکالی جاتی ہے۔

حضرت ابوالعالیٰ فرماتے ہیں :

لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من
ريحان الجنة فيشميه ثم يقبض .

یعنی جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ دُنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے اسے گل ہائے جنت کی ٹہنی لا کر سنگھائی جاتی ہے، پھر اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔

حضرت سلمان سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يَشْرُبُ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَنْ يَقَالُ لَهُ: أَبْشِرْ بِرَضَا اللَّهِ وَ
الجَنَّةِ، قَدْ مَدَتْ خَيْرَ مَقْدَمٍ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِمَنْ يَشِيعُ إِلَى قَبْرِكَ، وَ

صدق من شهدک، و استجاب لمن یستغفر لک .

یعنی مومن کو قبر میں اولین خوش خبری یہ دی جاتی ہے کہ خوش ہو جا اللہ تجھ سے راضی ہے اور جنت تیراٹھ کانہ ہے۔ تو نے بہترین اعمال اپنے آگے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو بخشن دیا۔ جو تیرے ساتھ موجود ہے اس کی تقدیق فرماتا اور جو تیری مغفرت مانگے اسے مقبول بناتا ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قِبْضَ رُوحِ الْمُؤْمِنِ أَوْ سَحَى إِلَى مَلْكِ الْمَوْتِ أَفْرَأَئُهُ
مَنِي السَّلَامُ فَإِذَا جَاءَ مَلْكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَهُ قَالَهُ لَهُ: رَبِّكَ
يَقْرَئُكَ السَّلَامَ .

یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندہ مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت کو مطلع فرماتا ہے کہ فلاں بندہ کو جا کر میری طرف سے سلام و رحمت کہہ دیتا۔ اب جب ملک الموت اس کے پاس روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں : تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔

حضرت محمد قرظی فرماتے ہیں :

إِذَا اسْتَبَلَّفْتَ نَفْسَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَادَ مَلْكُ الْمَوْتِ فَقَالَ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللَّهِ، اللَّهُ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ
الآيَةَ: ”الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَبِيعَيْنَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“ .

(۱)

_____ (۱) سورہ خل: ۳۲/۱۶۔

یعنی جب بندہ مومن کی جان بدلائے مشقت ہوتی ہے تو ملک الموت پہنچتے ہیں اور (ڈھارس دیتے ہوئے) کہتے ہیں: اے ولی اللہ! تم پر سلام و رحمت ہو۔ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی: جن کی رو جس فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (یہی وطاعت کے باعث) پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، (ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں): تم پر سلامتی ہو۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيَبْشِّرُ بِصَلَاحٍ وَلَدَهُ مِنْ بَعْدِهِ لِتَقْرَرُ عَيْنُهُ .

یعنی بندہ مومن کو اپنے نیکوکار فرزند کی بشارت ہوتا کہ اس کے بعد اس کی آنکھوں کو وہ ٹھنڈا رکھے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ "لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ" کا معنی یہ ہے کہ انھیں پتا ہوتا ہے کہ وہ قل ازموت کہاں ہیں۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" سے موت کا وقت مراد ہے۔

حضرت مجاہد نے آیت کریمہ "أَلَا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزُنُوا وَ أَبْشِرُوا" کا معنی یہ بیان فرمایا ہے کہ موت اور امور آخرت کا سوچ کر بالکل نہ ڈرو۔ اور دنیا میں جو تم اپنی اہل واولاد اور دین چھوڑ آئے ہو اس کی ایک ذرا فکر نہ کرو؛ کیوں کہ ہم ان سب کا تمہیں نعم البدل عطا فرمادیں گے۔

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: موت سے بالکل نہ گھبراو، (یہ سن کر) اُس کا سارا خوف و ہر اس ہر کو ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اب دنیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی کوئی غم نہ کر، اور اپنے جنتی ہونے

کامزدہ سن لے تو اس کا یہ ڈر بھی جاتا رہتا ہے۔ اور دنیا کی ایک ذرا فکر نہ کر؛ اس طرح اس کی روح نفس عضری سے پرواز کر جاتی ہے اور وعدہ الہی سن کر اس کی آنکھیں مٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہیں۔

حضرت حسن سے فرمانِ الہی ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً“ کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے کسی بندہ مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ روح، اللہ سے اور اللہ اس روح سے مطمئن ہو جاتا ہے۔

بیہقی نے ”المشيخۃ البغدادیۃ“ میں فرمایا کہ میں نے ابوسعید اور حسن بن علی واعظ کو، انہوں نے محمد بن حسن واعظ کو، انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے کسی کتاب میں لکھا دیکھا ہے :

انَّ اللَّهَ تَعَالَى يَظْهِرُ عَلَى كَفِ الْمَوْتِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ بِخَطِّ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَبْسُطَ كَفِيهِ لِلْعَارِفِ فِي وَقْتٍ
وَفَاتَهُ فِيرِيهِ تَلَكَ الْكَتَابَةُ، فَإِذَا رَأَتْهَا رُوحُ الْعَارِفِ طَارَتْ إِلَيْهِ
فِي أَسْرِعِ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ .

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت کی ہتھیلی پر خط نور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش ابھار دیتا ہے پھر اسے حکم دیتا ہے کہ (فلان) عارف (ربانی کے پاس جاؤ اور) بوقت نزع اپنی ہتھیلی کا یہ نقش کھول کر اسے دیکھا دو۔ (کہا جاتا ہے کہ) عارف کی روح جیسے ہی اسے دیکھتی ہے پک جھکنے سے بھی پہلے وہ (علم بالا کو) پرواز کر جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس سے مرفوع آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ملک الموت کو میرے کسی ایسے امتی کی روح قبض کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے تو وہ

کہتا ہے: اسے جا کر یہ خوش خبری دینا کہ تم (اپنے گناہوں کے مطابق) جہنم میں اتنی اتنی سزا کے بھگتے کے بعد جنت میں داخلے کے مجاز ہو گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ رحم و کرم ہی کا معاملہ فرماتا ہے۔

مردے کی روحوں سے ملاقات اور اس سے استفسارات

حضرت ابوایوب анصاری سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ تَلْقَاهَا أَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا يَلْقَوْنَ الْبَشِيرَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَيَقُولُونَ: انظُرُوا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيحُ فِيْهِ كَانَ فِيْ كَرْبَلَةَ شَدِيدًا، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فَلَانَ وَفَلَانَةَ تَزَوَّجُتْ.

یعنی جب بندہ مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اسے اللہ کے پیکران رحمت بندے ایسے ہی خوش آمدید کرتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری دینے والے کی آبھگت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں: دیکھو تمہارا دوست ابھی محسوس تراحت ہے، اور کیوں نہ ہو دنیا کے کرب و غم سے تحکم ہار کر جو آرہا ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسے ہے؟ اور فلاںہ عورت کی شادی ہوئی یا نہیں؟؟۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے آپ نے فرمایا :

إِنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَ يَعَايِنُ مَا يَعَايِنُ يُودُ لَوْ خَرَجَ رُوْحُهُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ لِقاءَهُ، وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَصْعُدُ رُوْحُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْتَخِبِرُونَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ.

یعنی ایک مرد مومن کی موت کا وقت جب آپنچتا ہے، اور وہ قدرت کی نوازش و انعامات کو دیکھ لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ کب اس کی روح جسد خاکی سے نکل چلے

کہ پروردگار اس کی ملاقات کا مشاق ہوتا ہے۔ پھر جب مومن کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو مومنوں کی روحیں (اس کے استقبال کو) آتی ہیں اور اس سے دنیا میں اپنے دوست آشناوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِن رُوحَيِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَلْتَقِيَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ مَا رأَى أَحَدُهُمْ صاحِبَهُ قُطْ .

یعنی مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت تک باہم ملاقاتیں کرتی ہیں حالانکہ ان میں کوئی کسی سے کبھی نہیں ملی ہوتی۔

حضرت ابن لیثیہ فرماتے ہیں کہ جب شربن براء بن معروف کا انتقال ہوا تو ان کی ماں نے ان کی موت پر شدید رنج والم کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا: يار رسول اللہ! بنو سلمہ کا مرنے والا کوئی مرے تو کیا وہ مردے کو پہچانتا ہے؟ اگر پہچانتا ہے تو میں بشر کی طرف سلام بھجواؤ۔ فرمایا: ہاں! قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مردے آپ میں ایک دوسرے کو ایسے ہی جانتے پہچانتے ہیں جیسے سرشاخ پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اب ام بشر بنو سلمہ کے ہر مرنے والے شخص کے پاس آتیں اور آ کر کہتیں: ایفلائیں تم پر سلامتی ہو۔ وہ جواب دیتا: وعلیک السلام۔ پھر وہ عرض کرتیں: بشر کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں :

إِذَا ماتَ الْمَيْتُ اسْتَفْبَلَهُ وَلَدُهُ كَمَا يَسْتَفْبِلُ الْغَائِبُ .

یعنی جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کا ایسے ہی استقبال کرتی ہے جیسے کسی مہمان کا (پر تپاک) استقبال کیا جاتا ہے۔

حضرت ثابت بن ابی فرماتے ہیں کہ (معترض رائع سے) ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب

کسی کی روح نفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو اس سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے اس کے عزیزو اقارب اس کی طرف دوڑے آتے ہیں، اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور یہ انھیں دیکھ کر خوشی اور ڈھارس محسوس کرتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی مسافر اپنے اہل خانہ میں پہنچ گیا ہو۔

مردہ غسل و تکفين کرنے والے کو پہچانتا ہے

حضرت ابو سعید خدری سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْمَيْتَ يَعْرُفُ مَنْ يَغْسِلُهُ وَيَحْمِلُهُ، وَمَنْ يَكْفُنَهُ وَيَدْلِيهُ فِي

حفرتہ .

یعنی مردہ غسل دینے والوں اور کفن پہنانے والوں کو پہچانتا ہے اور انھیں بھی جو اُسے کاندھے پر اٹھا کر لیتے جاتے ہیں، اور اس کی قبر میں اُتارتے ہیں۔

حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں :

مَا مِنْ مَيْتٍ يَمْوَتُ إِلَّا وَرُوْحُهُ فِي يَدِ مَلِكٍ يَنْظُرُ إِلَى جَسْدِهِ
كَيْفَ يَغْسَلُ، وَ كَيْفَ يَكْفُنُ، وَ كَيْفَ يَمْشِي بِهِ، وَ يَقَالُ لَهُ وَهُوَ
عَلَى سُرِيرِهِ: اسْمَعْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ.

یعنی جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اپنے جسد خاکی کو تلتی رہتی ہے کہ اسے کیسے نہ لایا، کفن پہنایا اور لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور ابھی وہ مردہ تختہ غسل پر ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سنلوگ تھہاری کیا کیا تعریفیں کر رہے ہیں!۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمَيْتَ لِيَعْرُفُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِنَّهُ لِيَنَاشِدَ غَاسِلَهُ بِاللَّهِ إِلَّا

خففت علی غسلی .

یعنی حقیقت یہ ہے کہ میت ہر چیز کو پہنچاتی ہے حتیٰ کہ وہ غسل دینے والے سے اللہ کی قسم دلا کر کہتی ہے کہ غسل دینے میں کوئی سختی نہ کرنا۔

حضرت بکر مرنی فرماتے ہیں :

حدّثتْ أَنَّ الْمَيْتَ يَسْتَبَشِرُ بِتَعْجِيلِهِ إِلَى الْمَقَابِرِ .

یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ میت اس وقت زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے جب اسے قبرستان کی طرف جلدی جلدی لے جایا جاتا ہے۔

حضرت ایوب فرماتے ہیں :

مِنْ كَرَامَةِ الْمَيْتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلُهُ إِلَى حُفْرَتِهِ .

یعنی میت اپنے اہل خانہ کی احسان مند ہوتی ہے اگر وہ اسے قبر کے حوالے کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں۔

زمین و آسمان کارونا

حضرت انس سے مردی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا لَهُ بَابٌ فِي السَّمَاوَاتِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزَلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا ماتَ الْعَبْدُ بُكِيَّا عَلَيْهِ .

یعنی ہر انسان کے لیے (اللہ تعالیٰ نے) آسمان میں دو دروازے بنارکھے ہیں، ایک سے اس کے اعمال اور پڑھاتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق نیچے اُترتا ہے۔ پھر جب وہ انسان مر جاتا ہے، تو یہ دونوں دروازے اس کی موت پر

گریہ و بکار کرتے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ بَكَىٰ عَلَيْهِ مَصْلَاهٌ فِي الْأَرْضِ وَ مَصْدَعٌ
عَمَلَهُ فِي السَّمَاءِ .

یعنی مومن جب مرتا ہے تو زمین پر اس کی سجدہ گاہ اور آسمان پر اس کے عمل
چڑھنے کی جگہ آہ وزاری کرتی ہے۔

حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سُجْدَةً فِي بَقِيعَةٍ مِّنْ بَقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا
شَهَدَتْ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ بَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمُ الْمَوْتِ .

یعنی جب کوئی بندہ مومن رضائے الہی کی خاطر روئے زمین کے کسی خط پر
اپنا سر نیاز سجدے میں رکھتا ہے تو اتنا خطہ کتنی قیامت کے دن اس کی گواہی دے
گا، اور جس دن وہ بندہ اس بزم دنیا سے اٹھتا ہے اس کی موت پر روتا ہے۔

حضرت ابن عمر سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ تَجْمَلَتِ الْمَقَابِرُ بِمَوْتِهِ، فَلَيْسَ مِنْهَا بَقِيعَةٌ
إِلَّا وَهِيَ تَتَمَنِي أَنْ يَدْفَنَ فِيهَا .

یعنی جب بندہ مومن کی روح پر واڑ کرتی ہے تو پورا قبرستان اس کی موت کی
وجہ سے (اس کے استقبال کے لیے) بن سنوار جاتا ہے، اور اس قبرستان کا ہر گلکڑا
اُسے اپنے دامن میں پناہ دینے کا آرزو مند ہوتا ہے۔

مؤمن کے ساتھ قبر کا سلوک

حضرت سعید بن مسیتب سے مروی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! جب سے آپ نے مجھ سے مکر و نکیر کی آواز اور قبر کے جھٹکے کا حال بیان فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا:

يَا عَائِشَةً إِنَّ صَوْتَ مُنْكَرٍ وَنُكْبَرٍ فِي أَسْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ كَالْإِنْدَمْ
فِي الْعَيْنِ، وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأَمْ الشَّفِيقَةِ يَشْكُو إِلَيْهَا
ابنَهَا الصَّدَاعَ فَتَغْمِرُ رَأْسَهُ غَمْزَارِفِيقَا، وَلَكِنْ يَا عَائِشَةَ وَيْلَ
لِلشَاكِينَ فِي اللَّهِ كَيْفَ يَضْغَطُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَضَغْطَةِ الصَّخْرَةِ
عَلَى الْبَيْضَةِ .

یعنی اے عائشہ! (مگر تمہیں معلوم ہونا پاپیے کر) مکر و نکیر کی آواز اہل ایمان کے کانوں میں بالکل ایسے ہی محسوس ہوگی جیسے سرمه اشدا نکھل میں۔ (یعنی بالکل محسوس نہیں ہوگی) اور مؤمن کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے مشق و مہربان مان۔ جب کہ اس کا بیٹا اس سے دریسر کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس کا سرزی سے دباتی ہے۔ مگر اے عائشہ! اللہ کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہنے والوں کا براحال ہوگا، وہ قبر کے اس جھٹکے (اور دھماکے) کو کیسے برداشت کر سکیں گے جب لگے گا کہ کسی بڑی چیز کو اٹھے پردے مارا گیا ہو۔

حضرت محمد تھی فرماتے ہیں کہ قبر کا دبنا دراصل ایسے ہی ہو گا جیسے کہ کسی کی ماں اسے (پیار سے) پھینچ رہی ہو۔ چوں کہ وہ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے پھر اس سے مدقوق بچھڑے رہنے کے بعد اس کی اولاد جب اس کے پاس واپس آتی ہے تو وہ انھیں ایسے ہی (پیار سے) دباتی ہے جیسے شفیق ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو مدقوق بعد

پاکر چھپتی ہے؛ لہذا جو اللہ کے پیکار ان طاعت ہیں انھیں تو نہایت ہی رفق و زمی سے چھپتی ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں انھیں مارے غصے کے خوب سختی و بے دردی سے دبا کر رکھ دیتی ہے۔

قبر میں مومن کا خیر مقدم

حضرت ابوسعید خدری سے مردی کہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحُبًا وَأَهْلًا مَا إِنْ كَنْتَ
لَأَحْبَبْ مِنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذَا وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصَيْرَتْ
إِلَيَّ فَسْتَرِي صَنْعِي بَكَ فَيَتَسَعَ لَهُ مَدْ بَصَرِهِ، وَيَفْتَحَ لَهُ بَابَ إِلَيْ
الْجَنَّةِ .

یعنی جب بندہ مومن کی تدفین عمل میں آتی ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے: مرحا خوش آمدید۔ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھا، تو آج جب کہ تم میری آغوش میں آگئے ہو تو دیکھو اب میں تمہاری کیا ضیافت کرتی ہوں اور تمہاری رفاقت کا حق کیسے ادا کرتی ہوں، چنانچہ قبر تاحد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور سوے جنت جانے والا ایک دار اس کے لیے واہو جاتا ہے۔

حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے :

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِّنْ حَفَرِ النَّارِ . (۱)

(۱) سنن ترمذی: ۵۰۰/۸..... کنز العمال: ۵۲۶/۱۵..... مندرجات: ۱۱۳..... حدیث: ۲۳۸۲..... مکملہ المصانع: ۳۷۸۹..... حدیث: ۳۳۳..... حدیث: ۱۶۱/۳..... حدیث: ۵۳۵۲

یعنی بلاشہہ قبرِ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

سوال منکر نکیر کے وقت مومن کو پشارت

حضرت قادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليس مع
قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول
في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله،
فيقولان: أنظر إلى مقعدك في النار وقد أبدلك الله به مقعدا
من الجنة . فيراهما جميا .

قال قتادة: و ذِكْر لَنَا أَنَّهُ يُفْسِحُ لِهِ فِي قَبْرِهِ سَبْعَوْنَ ذَرَاعًا وَ
يَمْلأُ عَلَيْهِ خَضْرًا . (١)

یعنی بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست آشنا وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں سے ابھرنے والی آواز کو بھی سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟

(١) صحیح بخاری: ١٤٥ / ٥ حديث: ١٢٨٥ صحیح مسلم: ٣١ / ١٣ حديث: ٥١١٥ سنن ابو داود: ٩ / ٣٧ حديث:
سنن نسائی: ٧ / ٢٨٢ سنن المصنف: ١ / ٢٧٦ حديث: ١٢٢ مندرجات: ١١ / ٢٧
مکملہ المصنف: ٢٠٢٣ سنن کبریٰ نسائی: ٢٠٢٣ مصنف عبد بن حید: ١٣ / ٣٠
حدیث: ١٣٩٤٢ سنن کبریٰ یمنی: ٢ / ٨٠ سنن کبریٰ نسائی: ١ / ٢٧ مصنف عبد بن حید:
١٣ / ٣٠ حدیث: ١١٨٣ السنۃ لعبد اللہ بن احمد: ٣٥٠ / ٣ الشریعہ آجری: ٢ / ٣٢
الشریعہ آجری: ٣٥٠ / ٣ حدیث: ١٣٠٢ الشریعہ آجری: ٢ / ٣٢ فوائد ابو علی
حدیث: ٨٥٢ شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ لالکانی: ١ / ٢٧ حدیث: ٢٢٤
الصواف: ٢ / ١ کنز العمال: ١٥ / ٢٣٣ حدیث: ٣٢٥٠٣ مندرجات: ٩ / ٣٢٠ حدیث:
الصواف: ٢ / ١ کنز العمال: ١٥ / ٢٣٣ حدیث: ٣٢٥٠٣ مندرجات: ٩ / ٣٢٠

اگر وہ بندہ مومن ہو تو کہہ اٹھے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں: جہنم میں اپنے اس ٹھکانے پر ذرا ایک نظر ڈال؛ لیکن (تیری نیک بختی کہ) اللہ نے تجھے اس کے بد لے جنت میں رہائش عطا کی ہے۔ تو اس وقت جنت و جہنم دونوں بندوں کوِ کھاتی جاتی ہے۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ (بلکہ آقا کے کریم علیہ السلام نے ہم سے توسعی قبر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ) قبر اس کے لیے ستر گز تک کشادہ ہو جاتی ہے اور پھر ہر طرف ہریالی و شادابی کا سماں ہوتا ہے۔

اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث حضرت انس نے بھی روایت کی ہے جس کے آخر میں

اتنا اضافہ ہے :

فیقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي: فيقال له اسكن .
یعنی وہ بندہ یہ سب دیکھ کر (فرشتوں سے) عرض کرتا ہے: مجھے ذرا مہلت دیں کہ میں جا کر اپنے الہ و عیال کو ان چیزوں کی خوشخبری سناؤں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تو یہیں آرام کرو اور صبر سے کام لے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دوسیاہ اور نیلگوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرا کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ میت سے پوچھتے ہیں: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے (اور کیا عقیدہ رکھتے تھے)؟ تو وہ کہتی ہے: یہ تو اللہ کے محظوظ بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں :

قد کنا نعلم انک تقول هذاء، ثم يفسح له في قبره سبعون
ذراعاً في سبعين عرضاً، ثم ينور له فيقول : دعوني أرجع إلى
أهلی فأخبرهم، فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقيه إلا
أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك . (۱)

لینی ہمیں تم سے اسی جواب کی توقع تھی؛ لہذا اُس کی قبر کو طول و عرض میں ستر
سترنگز کشادہ کر کے اسے خوب روشن و منور کر دیا جاتا ہے۔ (قدرت کی ان
نوازشوں کو دیکھنے کے بعد میت بے ساختہ) پکارائیتی ہے: مجھے چھوڑوتا کہ میں
اپنے اہل خانہ کو جا کر ان چیزوں کی خبر دے سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں: اب تو (بے
خوف) ڈھنن کی مانند (آرام سے) سو جائیں اُس کے محبوں و منتظرِ رُغَاه کے
علاوہ کوئی اور نہیں جگاسکتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے دوبارہ آٹھائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے فرمایا: اس ذاتِ اقدس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے مردہ
 جب سر لحد رکھا جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر جانے والوں کے جو توں کی آہٹ بھی سنتا
 ہے۔ اب اگر وہ مومن ہوا تو (اس کی نغمگساری کی خاطر) نماز اُس کے سر ہانے، زکوٰۃ
 دائیں طرف، روزہ بائیں سمت اور اس کے اعمالِ صالحہ نیز لوگوں کے ساتھ نیکی و احسان
 اس کی پائیتی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔

اب سر ہانے کی طرف سے آنے والا کہتا ہے کہ میں نماز ہوں میری طرف سے کوئی
 ایذ انہیں پہنچ سکتی۔ اور دنی طرف سے آنے والا کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ہوں میری طرف سے
 تجھے کسی قسم کا حزن نہ ہوگا۔ اور بائیں جانب سے آنے والا کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک
 اعمال و احسانات ہوں میرے سامنے سے کوئی تختی نہیں گز سکتی۔

(۱) مکملہ المصانع: ۲۸/۱: حدیث: ۱۳۰.....کنز العمال: ۲۳۲/۱۵: حدیث: ۴۲۵۰۰۔

پھر اس سے کہا جاتا ہے: بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج بس غروب ہی ہونے والا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تم سے جو پوچھیں اس کے بارے میں ہمیں (ٹھیک ٹھیک) بتانا۔ وہ بندہ مومن کہتا ہے: ذرا رُکو میں نماز تو آدا کرلوں۔ تو وہ کہتے ہیں: اگر تم (نماز میں) مشغول ہو گئے تو پھر ہمارے سوال کا جواب کیسے دو گے؟ وہ کہتا ہے اچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں: اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے جو تم میں (مبعوث ہوا) تھا؟ بندہ مومن جواب میں کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول اللہ ہیں، پروردگار عالم کی طرح سے روشن آیتیں لے کر وہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے تھے، تو ہم نے ان کی تصدیق کی اور (جان و دل سے) ان کی پیروی کی۔

اب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا۔ تیری پوری زندگی اسی کی آئینہ دار ہی، تیری موت بھی اسی پر واقع ہوئی اور انشاء اللہ تو آمین میں کے ساتھ اسی پر دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اب اس کی قبر تاحد نظر پھیلا دی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے واکیا جائے، اور اس سے کہا جاتا ہے: اگر تم اللہ کے نافرمان ہوئے تو سمجھو کہ یہی تمہارا اٹھکانہ تھا، (یہ کرنے کا) اُس کا اشتیاق و سرور دو آتشہ ہو جائے گا۔ اب حکم ہو گا کہ سوئے جنت کو جاتا ایک دروازہ اس کے لیے واکیا جائے، چنانچہ اسے واکرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا: یہ تمہاری رہائش گاہ ہے اور وہ سب کچھ جو اللہ نے خاص تمہارے لیے تیار کر کھا ہے۔ اب اس کی شوق ولگن اور فرحت و انبساط کا گراف اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر جسم کو اس کی اصل مٹی کی طرف پٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح بیز پرندے کی شکل میں خوشبودار ہو ایں اڑا کر جنت کے درخت پر آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ (۱)

(۱) صحیح ابن حبان: ۲۲۰/۱۳ حدیث: ۳۱۷/۸..... موارد المطہان: ۱/۱۶..... اثبات عذاب القبر تہیقی: ۱۲/۱
حدیث: ۵۳..... الاعقاد تہیقی: ۱/۲۲۱ حدیث: ۱۹..... از ہدایت ابن سری: ۱/۳۶۹ حدیث: ۳۳۲۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے اعمال صالح اس کے پاس آ کر اسے گھیر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی سر ہانے سے آنا چاہے تو قراءتِ قرآن آگے آ جاتی ہے۔ پائتی سے آنا چاہے تو شب کا قیام آگے آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی طرف سے آنا چاہے تو اس کے ہاتھ بول پڑتے ہیں: قسم بخدا! ہمیں اس نے ہمیشہ دعاؤں میں پھیلایا اور ہم سے صدقہ و خیرات کیا؛ لہذا تمہاری ہم پر کچھ نہ چلے گی۔ اگر اس کے منہ کی راہ سے آنا چاہے تو اس کا ذکر دروزہ آگے بڑھ جاتا ہے۔

یوں ہی ایک طرف سے صبر و صلوٰۃ آ جاتے ہیں۔ یعنی جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس ہوئی تو اعمال دوستی کا ہاتھ بڑھاتے نظر آئیں گے۔ اور اعمال صالح اس کا بالکل ایسا ہی دفاع کریں گے جیسے کوئی شخص اپنے بھائی، دوست اور اہل و عیال کی طرف سے دفاع کیا کرتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اس سے کہا جائے گا: اب (جیسیں کی نیند) سوجا، اللہ تمہاری خواب گاہ میں برکتیں اُتارے۔ واہ! تمہاری یہ حالت کتنی اچھی ہے! اور تمہارے دوست کتنے اچھے اور عمدہ دوست ہیں!!۔

حضرت اسماء سے مروی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب انسان اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو اگر مومن ہوا تو نماز روزہ اس کے سارے اعمال چاروں طرف سے آ کر اسے گھیر لیتے ہیں۔ اب جب فرشتہ نماز کی طرف سے آتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے، یوں ہی روزہ کی سمت سے آتا ہے تو روزہ آڑ بن جاتا ہے۔

اب فرشتہ پکار کر کہتا ہے: اٹھ کر بیٹھ جا، جب وہ بیٹھتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے: اس شخص یعنی محمد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ کہے گا: میں ان کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ پوچھتے گا: تم نے کیسے جانا کہ یہ رسول اللہ ہیں؟ کہے گا: بس میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ فرشتہ کہے گا: اسی شہادت پر تم نے زندگی بسر کی، اسی

پر دنیا سے اٹھے اور پھر اسی پر (انشاء اللہ) دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

حضرت بحر بن نصر صانعؐ کہتے ہیں کہ میرے والد بہت ذوق و شوق سے نماز جنازہ میں شریک ہوتی تھے۔ کہنے لگے: اے بیٹے! ایک دن میں کسی کے جنازہ میں شریک تھا، جب لوگ اسے لے کر دفن کرنے پلے تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر دو آدمی اُترے۔ پھر ایک تو نکل گیا مگر دوسرا اُسی میں رہ گیا اور لوگوں نے مٹی ڈال کر اسے بھی پاٹ دیا۔ میں نے کہا: لوگو! یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے مردے کے ساتھ ایک زندہ کو بھی دن کر دیا۔ بولے: ایسی کوئی بات تو نہیں۔

کہتے ہیں: تو میں نے اپنے جی میں سوچا کہ شاید مجھے شبہ یا مخالفاطہ ہو گیا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں لوٹ آیا مگر دل میں یہ تھا کہ میں اس وقت آرام نہیں کروں گا جب تک اس معاملے کی حقیقت اللہ مجھ پر منکشف نہ فرمادے۔ چنانچہ (تسکین خاطر کے لیے) میں دوبارہ اس قبر کے پاس آیا اور دس مرتبہ سورہ میں و سورہ ملک پڑھا، اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی: اے پروردگار! جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا فرمادے: کیوں کہ میری عقل عالم حیرت میں ہے۔

اتنا کہنا تھا کہ قبر پھٹ گئی اور وہ شخص باہر نکل آیا اور اُلٹے پاؤں واپس جانے لگا۔ میں نے عرض کیا: اے شخص! خدا واسطے، زک اور میرے دلی خطرات کو اپنے جواب سے دور کرتا جا۔ مگر اس نے میری بات پر ذرہ بھر بھی توجہ نہ کی۔

میں نے جب دو تین بار اس سے منت سماجت کی تو وہ مجھ سے خاطب ہو کر کہتا ہے: نصر صانع تمہیں کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا: بہا۔ تو تم مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: ہم ملائکہ رحمت ہیں۔ ہمارے ذمہ یہ کام سونپا گیا ہے کہ جب الہلسنت (جادہ سنت پر گامزن حضرات) اپنی قبروں میں اُتارے جائیں تو ہم جا کر انھیں تلقین کریں تاکہ ان پر جدت قائم ہو جائے۔ اتنا کہہ کروہ میری نگاہوں سے اوچھل ہو گیا۔

حضرت شفیق بنی فرماتے ہیں :

طلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل، وطلبنا جواب منكر ونکير فوجدناه في قراءة القرآن، وطلبنا العبور على الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة، وطلبنا ظل يوم الحساب فوجدناه في الخلوة .

یعنی ہم نے قبر کی روشنی طلب کی تو وہ رات کی (تھائیوں میں ادا کی جانے والی) نمازوں میں ملی۔ ہم نے منکر و نکیر کے جواب کی جتنی تو وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سے ہاتھ آیا۔ ہم نے پل صراط سے پار ہونے کے متعلق غورو خوض کیا تو وہ روزہ و صدقہ میں نظر آیا۔ اور ہم نے یوم حساب کے سایہ کی تجسس کی تو وہ ہمیں خلوت نشینیوں میں دستیاب ہوا۔

حضرت ابن عمر سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وفي عذاب القبر، وفتنة القبر، ولقي الله ولا حساب عليه، وجاء يوم القيمة ومعه شهدون له أو طابع .

یعنی جس مسلمان مرد و عورت کو شب جمعہ یا روزِ جمحد میں مرنانصیب ہو وہ قبر کے فتنہ و عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ حساب و کتاب کے جھیلیوں سے آزاد ہو کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن اس شان سے آئے گا کہ اس کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ خصوصی گواہ یا مہریں ہوں گی۔

یوں ہی اس تعلق سے بہت سی حدیثیں اور اہل علم کے آقوال وارد ہوئے ہیں کہ کن کن سے سوال قبر نہ ہوگا، تو ان میں شہدا، صدیقین، سرحد اسلامی کے مخالفین، پیکران طاعت، نیز راجح قول کے مطابق چھوٹے بچے شامل مانے گئے ہیں۔

قبوں میں مومن پر عذاب کی کیفیت

حضرت ابن عمر سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

القبوں روپة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار . (۱)

یعنی قبور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

ترمذی نے اسی کے مثل حدیث حضرت ابوسعید خدری سے اور طبرانی نے مجموں اوس ط میں حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے۔

حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوٰۃ والتسیم نے فرمایا :

إن الرجل إذا توفي في غير مولده يفسح له من مولده إلى منقطع أثره . (۲)

یعنی کوئی شخص جب اپنے (وطن اور) جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو اُس کی قبر اس کی جائے ولادت سے لے کر جہاں تک اُس کا اثر و رسوخ تھا وہاں تک وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے۔

(۱) مجمع تفسیر طبرانی: ۱۲۰ حديث: ۱۲۰۵..... سنن ترمذی: ۱۲۰۵..... سنن ابو داود: ۵۰۰/۸..... مکملہ المصانع: ۱۲۱/۳..... مکملہ المصانع: ۱۲۱/۳..... حدیث: ۵۳۵۲..... المقادیر الحسینی: ۱۲۱/۱..... ظم المتأثر: ۱۲۲/۱..... کشف الخفاء: ۹۰/۲..... حدیث: ۱۸۵۳..... تذكرة الموضوعات: ۱۲۱/۱..... کنز العمال: ۵۳۶/۱۵..... حدیث: ۳۲۱۰۹..... مندرجات: ۱۱۲..... مندرجات: ۳۲۱۰۹..... حدیث: ۳۶۸۹..... ۳۶۸۹.

(۲) الفاظ کے مجموعی فرق کے ساتھ ایک روایت یوں بھی ہے :

إن الرجل إذا توفي في غير مولده يفسح له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة . (مندرجات: ۱۱۲/۱۳..... حدیث: ۲۳۲۹..... کنز العمال: ۲۹۷/۲..... حدیث: ۱۲۶۹۲)

حضرت ابن مسعود سے مروی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إن أرحم ما يكون الله بالعبد إذا وضع في قبرته . (۱)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر اس وقت کچھ زیادہ ہی رحیم و مہربان ہو جاتا ہے جب وہ (کسی اور تنہائی کے عالم میں) زیر لحد پڑا ہوتا ہے۔

اور دیلیٰ نے یوں روایت کیا ہے :

يفسح للرجل في قبره كبعدة من أهله .

یعنی مردہ کے لیے اس کی قبر اس کے گھر والوں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا :

المؤمن في قبره في روضة خضراء، ويرحب له في قبره

سبعون ذراعاً، وينور له في قبره كليلة البدر . (۲)

یعنی بندہ مونن اپنی قبر کے اندر سر بزرو شاداب باغ میں ہوتا ہے۔ اس کی قبر ستر گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ نیز اس کی قبر کو اس طرح روشن و منور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ چودھویں رات کی چاند نی نے اس میں بسیرا کر رکھا ہو۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إن أرجى ما يكون الله تعالى بالعبد إذا وضع في قبره .

یعنی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ بہت کچھ کرم فرمائے گا

جب کاسے قبر میں اُتار دیا جائے گا۔

(۱) کنز العمال: ۱۵/۲۰۱ حدیث: ۲۲۳۸۶۔

(۲) کنز العمال: ۲۰۲/۳ حدیث: ۳۰۱۲۔

حضرت ابن عباس سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِذَا ماتَ الْعَالَمُ صَوْرَ اللَّهِ لَهُ عِلْمٌ فِي قَبْرِهِ، فَيُؤْنِسُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَدْرُأُ عَنْهُ هَوَامَ الْأَرْضِ .

یعنی جب ایک عالم (باعل) دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ (انہی قدرت کاملہ سے) اس کے علم کو اس کی قبر میں صورت پذیر فرمادیتا ہے جس سے وہ قیامت کی دیواروں تک انسیت حاصل کرتا اور بہتر ہے گا، نیز وہ علم اسے زمین کے موزی جانوروں سے بھی محفوظ رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا :

تَعْلِمُ الْخَيْرَ وَعِلْمَهُ النَّاسُ، فَإِنِّي مُنْوَرٌ لِمَعْلُومِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمٌ
قَبُورُهُمْ لَا يَسْتُوحِشُونَ بِمَكَانِهِمْ .

یعنی (دارین کی) خیر و بھلائی (والے علوم) خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں؛ کیوں کہ میں علم سکھانے اور سیکھنے والے دونوں کی قبریں روشن رکھتا ہوں جس سے انھیں (قبر کی تہائی میں) کسی وحشت کا احساس نہیں ہوتا۔

حضرت ابن کامل سے مروی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ كَفَ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفُ عَنْهُ عَذَابَ
الْقَبْرِ . (۱)

یعنی جو لوگوں کو تکلیف و اذیت نہیں پہنچاتا (یا جس کی اذیت و شر سے لوگ محفوظ ہیں)، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے ضرور محفوظ رکھے گا۔

(۱) مجمع کبیر طبرانی: ۳۱۱/۱۳ حديث: ۱۵۳۲..... ضعفاء الکبیر عقلی: ۷/۲۰۰ حديث: ۱۶۵۲..... مجمع الزوائد من مجمع الفتاوى: ۱۵۹/۲..... الموضوعات: ۱۶۳/۳۔

یکے از اولیا سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قبر والوں کے حالات پر مطلع فرم۔ چنانچہ ایک شب میں تخت پر سویا ہوا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ قبریں پھٹ پڑی ہیں، کوئی دھاڑ مار مار کے رور ہا ہے، اور کوئی کھل کھلا کے ہنس رہا ہے۔

میں نے عرض کیا: مولا! اگر تو چاہتا تو عزت و کرامت میں یہ سب ایک برابر ہوتے۔ تو ان اہل قبور میں سے ایک نے چلا کر کہا: اے فلاں! یہ سب کچھ اعمال کی کی ویشی کا نتیجہ ہے۔ یہ جوز رق برق لباس والے ہیں، یہ دراصل (دنیا میں) اخلاق و کردار کے دھنی تھے۔ وہ ریشم و دیپا میں ملبوس، اہل شہادت ہیں۔ وہ خوشبوؤں میں بے ہوئے روزہ دار لوگ ہیں۔ وہ کیف و سرور میں بد مست، اللہ واسطے دوستی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ گریہ و بکار نے والے گنہ گارو سیہ کار ہیں۔

حضرت یافعی فرماتے ہیں: مردوں کو اچھی یا بُری حالت میں دیکھنا یہ ایک طرح کا کشف ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اس لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو خوش خبری دی جاسکے، یا ان کی ہدایت و نصیحت کا سامان کیا جاسکے۔ یا پھر اس سے مردے کی کوئی اور مصلحت متعلق ہوتی ہے۔ یا اسے کوئی بھلانی پہنچانا یا قرض کی ادائیگی کرنا مقصود ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ روئیت کبھی حالت خواب میں ہوتی ہے، اور زیادہ ترا ایسا ہی ہوتا ہے، اور کبھی عالم بیداری میں۔

کفاریۃ المعتقد میں ہے: صالحین امت میں سے ایک بزرگ نے کسی مرد صالح کی حکایت نقل کی کہ (انتقال کے بعد) اُس کی والدہ اُس کے پاس نہ صرف آیا کرتیں بلکہ بات چیت بھی کیا کرتی تھیں۔

حضرت بیجنی بن معین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ کسی گورکن نے کہا: جو کچھ میں نے ان قبروں میں دیکھا ہے اگر آپ سنیں گے تو ورطہ حیرت میں آجائیں گے۔

میں نے ایک قبر سے مریض کے کراہنے کی طرح آہ و کراہ کی آواز سنی ہے۔ اور ایک قبر والے کو موزن کی آذان کا جواب دیتے ہوئے بھی سنائے۔

قبر میں مردوں کا نماز میں پڑھنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ ایک صحابی رسول غیر شعوری طور پر کسی قبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ حالاں کہ وہ ایک (قدیم) قبر تھی جس میں ایک انسان نے شروع سے لے کر اخیر تک سورہ ملک کی تلاوت کی؛ پھر آقاے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اس واقعہ کی خبر دی؛ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

هي المانعة، وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر .

یعنی یہ (سورہ) روکنے، دفع کرنے اور نجات دینے والی ہے جو میت کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔

حضرت ابوالقاسم سعدی ”كتاب الاوصاف“ میں فرماتے ہیں :

هذا تصدق من رسول الله صلی الله علیہ وسلم بأن الميت يقرأ في قبره، فإن عبد الله أخبره بذلك و صدقه رسول الله صلی الله علیہ وسلم .

یعنی گویا میت کا قبر کے اندر تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو گیا؛ کیوں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے جب اس کی خبر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک سفر کے دوران کسی جنگل میں

تھا، رات ہوئی تو وہیں عبد الملک بن عمرو بن حزم ام کی قبر کے پاس پناہ گزیں ہو گیا، یا کیک میں نے قبر کے اندر سے نہایت خوش آوازی کے ساتھ تلاوتِ قرآن کی آواز سنی، ایسا پڑھنا تو اس کے پہلے میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر میں نے سارا قصہ کہہ سنا یا تو آپ نے فرمایا :

ذلک عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في
قناديل من زبر جد و ياقوت، ثم علقها وسط الجنة، فإذا كان
الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى يطلع الفجر،
فإذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه.

یعنی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو بیٹھ کر کے انھیں یاقوت و زبر جد کی تندیلوں کی شکل دے دی ہے پھر وسط جنت میں انھیں آویزاں کر دیا ہے۔ پس جب رات آتی ہے تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں جو تادم سحر بدستور ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر جب سیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے تو ان کی روحیں پھر وہیں لوٹا دی جاتی ہیں جہاں (وسط جنت میں) وہ تھیں۔

حضرت ابراہیم بن عبد الصمد مہدی فرماتے ہیں کہ دم سحر گاہی قلعہ سے ہو کر گزرنے والوں کے ذریعہ مجھے یہ پتا چلا کہ وہ فرماتے ہیں: جب مقام جبانہ میں ثابت بنانی کی قبر سے ہمارا گزر ہوا تو وہاں تلاوتِ قرآن کی آواز ہمارے کاؤں سے ملکرائی۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں :

يؤتى المؤمن مصحفًا يقرأ فيه .

یعنی (قبر کے اندر) مومن کو ایک مصحف عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ قبر کے اندر اس کی تلاوت (جاری) رکھ سکے۔

حضرت عاصم سقطی فرماتے ہیں کہ ہم نے شہر بخ کے اندر ایک قبر کھودی جب اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قبر کے اندر بالکل ہرے بھرے ماحول میں ایک سبز پوش شیخ قبلہ روم توجہ ہیں، اور اپنی گود میں قرآن کریم لے کر تلاوت فرمار ہے ہیں۔

حضرت ابو نظر نیشا پوری۔ جو کہ ایک نیک و صالح گورکن تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں قبر کا گذھا کھود رہا تھا کہ اچانک ایک دوسری قبر کھل گئی، جب اس میں جھانک کر دیکھا تو میری نظر چار زانو بیٹھے ہوئے ایک خوش لباس و خوبرو اور خوببو پوش نوجوان پر پڑی جس کی گود میں نہایت خوش خط ایک کتاب تھی کہ اپنی زندگی میں میں نے اس چیزی عمدہ کتابت کبھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا: کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ کہا: پھر وہ اینٹوں کو ان کی جگہوں پر رکھ دو، چنانچہ میں نے اینٹیں درست کر کے دیوار برابر کر دی۔

حضرت سہیلی "دلائل الغوۃ" میں کسی صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وطن میں ایک قبر کھودی تو اچانک ایک طاقہ کھل گیا (جھانک کر دیکھا) تو ایک شخص تحت پر بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے ارد گرد کا پورا ماحول سرسبز و شاداب اور لالہ زار بنا ہوا ہے۔ اور وہ میدان أحد تھا۔ ایسا لگا کہ شاید وہ شہداء احمد میں سے کوئی صحابی ہو گا کیوں کہ اس کے رخسار پر زخم کا نشان ہو یہا تھا۔ ابن حبان نے بھی اسے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔

حضرت یافعی "روضۃ الریاضین" میں رقم طراز ہیں کہ ایک مرِ صالح کا قول ہے کہ میں نے ایک بندہ مونمن کی قبر کھودی اور اس کی لحد کو برا بر کر رہا تھا کہ اس سے لگی ہوئی دوسری قبر کی ایک اینٹ اچانک گر پڑی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں چمکتا ہوا سفید لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ نظر آئے جن کی گود میں سونے کا ایک قرآن

تھا، اس کی کتابت بھی آب زریں سے ہوئی تھی، اور وہ اس کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انھوں نے میری طرف سراًٹھا کر کہا: کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ کہا: اللہ تھے خیر و عافیت سے رکھے، اینٹ کو اس کی جگہ پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے وہ اینٹ وہیں رکھ دی۔

حضرت یافعی ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ کسی معتبر گورگن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ایک قبر کھودی تو اسے تخت پر بیٹھے اور ہاتھوں میں قرآن لے کر پڑھتے ہوئے ایک انسان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کے نیچے نہریں روائی دوائی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس پر غشی طاری ہو گئی، قبر سے چکراتا ہوا نکلا اور اس واقعے کا اس پر اتنا گہراؤ اثر ہوا کہ تیسرے دن جا کر اسے ہوش آیا۔

مومن کو قبر میں فرشتے قرآن پڑھاتے ہیں

حضرت ابو سعید خدری سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

من قرأ القرآن ثم مات ولم يستظهره أتاه ملك يعلمه في
قبره فيلقى الله وقد استظهره . (۱)

یعنی جس نے قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کیا اور مکمل قرآن سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس کی قبر میں تعلیم قرآن کے لیے ایک خصوصی ملکوتی نمائندہ معین کر دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کی توفیق سے وہ مکمل قرآن پڑھ لیتا ہے۔

حضرت عطیہ عونی فرماتے ہیں: مجھ تک (معتبر ذراائع سے) یہ بات پہنچی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اسے قرآن کریم سیکھنے

(۱) التغییب فی فضائل الاعمال وثواب ذکر لابن شاہین: ۲۲۰/۱ حدیث: ۱۹۶..... کنز العمال: ۱/۵۲۷ حدیث: ۲۲۳۹۔

کا موقع ہی نہ ملا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اسے قرآن سکھاتا ہے بلکہ اس پر اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں: مجھ تک (معتبر ذرائع سے) یہ خبر پہنچی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اسے قرآن یاد کرنے کا موقع ہاتھ نہ آیا تو پروردگار عالم اس کے نگہبان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر میں زیورِ تعلیم قرآن سے آراستہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اہل قرآن کے ساتھ ہو۔

حضرت یزید رقاشی فرماتے ہیں: مجھے (معتبر ذرائع سے) معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس حال میں وفات پا جائے کہ اس کی تعلیم قرآن ابھی مکمل نہ ہو سکی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس کچھ ایسے مخصوص فرشتے بھیجتا ہے جو اس کا بقیہ حصہ حفظ کر دیتے ہیں تاکہ وہ قبر سے قرآن مجید کا حافظ ہو کر اٹھے۔

قبر میں مومن کا لباسِ فاخرہ

حضرت عبد بن بشر فرماتے ہیں کہ دم رخصت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا :

اغسلی ثوبیٰ هذین و کفنيني بهما، فإنما أبو بكر أحد
الرجلين إما مكسوأً أحسن الكسوة و إما مسلوباً أسوأ السلب .
یعنی میرے بھی دونوں (پرانے) کپڑے دھل کر میری کفن کے لیے استعمال کر لینا۔ کیوں کہ ابو بکر کا حال ان دو شخصوں میں سے ایک کی مانند ہو گا کہ آیا اسے اعلیٰ و پرکش شمر قع زیبا پہنا یا جائے، یا اس کے پوشак کو پورے طور پر (اس کے جسم سے) نوچ لیا جائے۔

حضرت یحیٰ بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا :

اقتصدوا في كفني، فإنه إن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو
خير منه، وإن كنت على غير ذلك سلبني وأسرع سلبي، و
اقتصدوا في حفريتي فإنه إن كان لي عند الله خير وسع لي في
قبري مد البصر، وإن كنت على غير ذلك ضيق علي حتى
تختلف أخلاقي .

یعنی میری تکفین کے سلسلے میں تم نہایت درمیانہ روی سے کام لینا؛ کیوں کہ اگر میرے لیے اللہ کے پاس بہتری ہوگی تو مجھے اس کا نعم المبدل مل جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مجھ سے آن کی آن میں (یہ کفن) بھی چھین لے گا۔ یوں ہی گورکنی کے سلسلہ میں بھی تم نہایت کفایت سے کام لینا؛ کیوں کہ اگر میرے لیے اللہ کے حضور بہتری ہوئی تو وہ تاحد نظر میری قبر کشاہد فرمادے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قبر کو اس قدر تنگ کر دے گا کہ باہم ڈب کر میری پسلیاں تتر پڑ ہو جائیں گی۔

حضرت خذیله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے دم رخصت فرمایا :
ابتاعوا لی ثوبین و لا علیکم فیان یصب صاحبکم خیراً الْبَسْنی
خیراً منها و إِلَا سلبها سلباً سریعاً . (۱)

(۱) اوسط ابن منذر میں آپ کا ایک قول یوں بھی نقش ہوا ہے :
لا تفالوا بکفني فان يك لصاحبكم عند الله خيراً بدل كسوة خيراً من كسوتكم و
إِلَا سلبها سلباً سریعاً . (۲۹۱۳: ۹۲۶)

یعنی مجھے صرف دو کپڑوں میں رائی ملک بقا کرنا اور بس۔ کیوں کہ اگر حق پر ہوں گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بہتر لباس عنایت فرمادے گا ورنہ وہ ان دونوں کپڑوں کو بھی بہت جلد اتار دے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت یہ بھی فرماتے تھے :
اشتروالي ثوبين أبيضين فإنهما لا يتركان على إلا قليلا حتى
أبدل بهما خيرا منهما أو شرا منهما .

یعنی میری (تکفین) کے لیے دوسفر کپڑے خریدنا کیوں کہ وہ بہت دری تک میرے پاس نہیں ملکیں گے؛ کیوں کہ یا تو مجھے اس کے عوض اس سے اچھا جوڑا عنایت کیا جائے گا یا پھر اس سے زیادہ ہر ا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت علیہ بنت ابیان بن صفی غفاری فرماتی

ہے :

أوصانا أبي أن لا تكفنه في قميص، قالت: فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه، إذ نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب .

یعنی ہمارے والد گرامی نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ انھیں کسی قیص میں کفن نہ دیا جائے۔ کہتی ہیں کہ (ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے یوں ہی قیص کے ساتھ ان کی تکفین کر دی تھی) پھر کل ہو کر جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جس قیص میں ہم نے ان کی تکفین کی تھی وہ ہکونی سے لٹکی پڑی ہے۔

بات، قبر میں مومن کے بستر کی

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ”فِي أَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ“ (سورہ

روم: ۳۰/۲۲)، کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں اپنے لیے آرام گا ہیں اور خواب گا ہیں درست کر رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

يقال للمؤمن في قبره ارقد رقدة العروس .

یعنی مردِ مومن سے اس کی قبر میں کہا جائے گا کہ اب دین کے سونے کی طرح تو بھی اپنی قبر میں (بے خوف) آرام کی نیند سو۔

قبر میں مردوں کی باہمی زیارت و ملاقات

حضرت ابو قحافة سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخاهَ فَلِيَحْسِنْ كَفْنَهُ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَارُونَ فِي

قبورهم . (۱)

یعنی والیاں میت کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے عمدہ کفن کا انتظام کریں کیوں کہ مردے اپنی قبروں میں باہمی زیارت و ملاقات کرتے رہتے ہیں۔

حضرت یہیقی اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حدیث سے بالکل متصادم نہیں کیوں کہ آپ نے آمینۃ

(۱) سنن ترمذی: ۹۱۲/۳..... سنن نسائی: ۹۱۲..... سنن ابی داہم: ۲۵۲/۲..... سنن ابی حیان: ۲۱۳/۳..... سنن عبد الرزاق: ۲۳۱/۳..... مسن ابی یعلی موصی: ۲۸۸/۵..... حدیث: ۱۳۶۳..... مصنف عبد الرزاق: ۲۳۱/۳..... حدیث: ۲..... مسن ابی یعلی موصی: ۲۸۸/۵..... حدیث: ۲۱۸۰..... شیخ ابی حیان: ۲۵۱/۱۳..... اخبار اصحابنا: ۳۰۹۹..... اخبار اصحابنا: ۱۰/۱۳۲..... حدیث: ۲۰۳۱..... اوسط لامن منزلہ: ۹/۱۲۲..... فوائد تمام: ۱/۲۵۷..... حدیث: ۲۵۸..... کنز العمال: ۱۵/۲۵۷..... حدیث: ۱۵/۲۵۳..... مسن جامع: ۲۸۳/۳۵۲..... تحقیق الالشراف: ۱۱/۲۰۲.....

کنز العمال کے علاوہ مذکورہ دوسرے حوالیات میں حدیث کا آخری تکڑا ”فَإِنَّهُمْ يَتَزَارُونَ فِي قبورهم“ نہیں ملتا۔ بلکہ کنز العمال میں بھی اس کی بجائے یہ آیا ہے: ”وَيَتَزَارُونَ فِي أَكْفانِهِمْ“

پیپ ولہو (کے خوف) کی وجہ سے ایسا فرمایا تھا؛ کیوں کہ اس کا مطلب ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، باقی علم الہی میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے شہدا کے بارے میں فرمایا: **بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ** . حالاں کہ ہم انھیں لہو آشام اور خون میں لٹ پت دیکھتے ہیں پھر یوں ہی دفن بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں تو یہی ہوتا ہے تا ہم درحقیقت ان کا حال ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اگر یہ چیزیں اللہ کے بتائے کے مطابق ہماری فہم و فراست کے چوکھے میں فٹ بھی ہو پاتیں پھر تو ہمارے ایمان بالغیب کی شان ہی پکھا اور ہوتی۔

حضرت جابر سے مردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون و يتزاورون في قبورهم .

(1)

یعنی اپنے مردوں کو اچھے اور عمدہ کفن میں دفن کیا کرو؛ کیوں کہ وہ اس پر فخر و مبارکت کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں باہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ ابن عدری نے ”کامل“ میں اسی کے مانند حدیث حضرت ابو ہریرہ سے اور خطیب نے ”تاریخ“ میں حضرت انس سے مرفوع اور ایت کی ہے۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اچھا اور عمدہ کفن ایک محظوظ و مرغوب چیز ہے؛ کیوں کہ کہا جاتا ہے کہ مردے اپنے کفنوں کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔

حضرت محمد بن سیرین مزید فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کفنوں تھے دار اور بہترین قسم کے ہوں؛ کیوں کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔

(1) **کتب والاسع دولاۃی: ۲/ ۳۳۱** حدیث: ۱۶۰۳۔

حضرت راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شب اس نے خواب میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا مگر ان کے درمیان اس کی اپنی بیوی نظر نہیں آئی۔ اس نے عورتوں سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں: دراصل تم لوگوں نے اس کو فن دینے میں نہایت کوتاہی بر تی تھی (اور کنجوں سے کام لیا تھا) بس اسی باعث وہ ہمارے ساتھ نکلنے سے شرما تی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس نے اس کی خبر دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دیکھو کوئی صالح آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے؟ چنانچہ وہ انصار کے ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کے چل چلا وہ کا وقت قریب آ گیا تھا تو اس نے اس سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ انصاری نے کہا: اگر اس طرح مردوں کو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی پہنچا دوں گا۔ پھر جب اس انصاری کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص زعفران میں رنگے ہوئے دو کپڑے لے کر آیا اور انھیں انصاری کے کفن میں رکھ دیا۔ اب جب رات ہوئی اور اس نے عورتوں کو دیکھا تو ان کی معیت میں اس کی بیوی بھی تھی اور وہ وہی زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی تھی جو اسے بھیجے گئے تھے۔

حضرت قیس بن قبیصہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

من لم يؤمِنْ لَمْ يُؤذِنْ لَهُ فِي الْكَلَامِ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ هَلْ يَعْلَمُ الْمَوْتَى؟ قَالَ: نَعَمْ وَ يَتَزَارُونَ .

یعنی جن کا خاتمه مع الایمان نہیں ہوتا انھیں بولنے اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا مردے بھی بولتے ہیں؟ فرمایا: ہاں کیوں نہیں بلکہ وہ تو ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔

حضرت شعیؑ فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے (فوت شدہ) اہل و عیال آتے ہیں اور اپنے اخلاف کی بابت پوچھتے ہیں کہ فلاں

کیسا ہے، اور فلاں نے کیا کچھ کیا ہے؟۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قبر میں اولاد کی دعا کی برکت سے میت کو مہلت و آسانی میسر آ جاتی ہے۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں: انعام یافتہ، اور عذاب یافتہ۔ تو گرفتار عذاب روح کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات سے محروم رہتی ہے۔ اور ناز نعم والی روح نہ صرف آزادانہ ایک دوسرے سے ملتی اور زیارت کرتی ہے بلکہ اپنے دُنیاوی تعلقات کے اعتبار سے باہمی ذکر و مذاکرہ بھی کرتی ہے اور اہل دُنیا کو یاد بھی کرتی رہتی ہے؛ لہذا ہر روح اپنے اس ساتھی کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے عمل کے مطابق ہو، اور سردارِ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، رفیقِ عالیٰ (کی معیت) میں ہوگی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسْنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا ۝ (۱)

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان (ہستیوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (خاص) انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔

اور اس معیت کا دنیا، عالم بزرخ اور آخرت میں بہر جا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ان تینوں آدوار میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔

(۱) سورہ نساء: ۲۹/۳۔

حضرت سلفی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جملہ مردوں کی روح کا اُن کے جسد خاکی میں لوٹ کر چلی جانا صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وہ بدن کے اندر کب تک رہتی ہیں۔ مطلب یہ کہ بدن، روح کے ساتھ ایسے ہی زندہ و تازہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہوا کرتا تھا یا بغیر روح کے ہوتا ہے، اور روح، اللہ کے چاہے کے مطابق کہیں اور ہوتی ہے؛ کیوں کہ زندگی کا روح کے ساتھ پایا جانا کوئی عقلی بات نہیں بلکہ یہ تو ایک امر عادی ہے۔

عقل تو یہ کہتی ہے کہ بدن، روح کے ساتھ دنیا کی طرح زندہ ہو۔ تو امر واقعہ ایسا ہی ہے۔ اور اہل علم کا ایک طبقہ اس کا قائل ہے، اور دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر میں نماز پڑھنے کو پیش کرتا ہے۔

اسی طرح شب معراج آنیاے کرام کی جو صفتیں بیان ہوئیں ان کا تعلق محض صفات سے ہے اجساد سے نہیں، اور پھر اس کے لیے حقیقی زندگی بھی درکار نہیں کہ روح جہاں بھی ہو بدن کے ساتھ ہی ہو۔ وہ جو دنیا میں کھانے پینے وغیرہ کی جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ تو محض اجسام کی صفات کے اعتبار سے ہیں۔ لیکن اب یہاں اُس کے احکام جدا گانہ ہیں۔

جہاں تک رہی بات میت کے سنبھالنے اور جاننے کی تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ تو (قرآن و حدیث سے) جملہ مردوں کے لیے ثابت ہے۔ امام سکلی کا موقف یہی ہے۔

حضرت یافعی فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بسا اوقات ارادہ قدرت کے مطابق مردوں کی روحیں اُن کے جسموں میں اُن کی قبروں کے اندر علیمین یا سخنیں سے پلٹا دی جاتی ہیں، خصوصاً شب جمعہ میں۔ پھر وہ مجلس بنانے کر بیٹھتے اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اہل بہشت تو نعمت ہاے گوناگون سے متنع ہوتے

ہیں اور اہل دوزخ عذاب سے دوچار کیے جاتے ہیں۔ تو روحیں ہوتی تو علمین یا سعین میں ہیں مگر مردوں سے ان کا ایسا گہر ارتباط اور تعلق ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمہ وقت قبر میں جسم و بدن کے ساتھ ہی ہیں۔

میت، اپنے زائر کو پہچانتی اور اُنس پاتی ہے

حضرت عائشہ سے مردی کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

ما من رجل یزور أخاه و یجلس عنده إلا استأنس به و رد عليه
حتی یقوم .

یعنی اگر کوئی شخص اپنے (دینی) بھائی (کے قبر) کی زیارت کو جائے اور وہاں جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو میت اس سے بہت مانوس ہوتی ہے، اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلانے جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام .

یعنی اگر کوئی شخص کسی شناساکی قبر سے گزرتے ہوئے اس کو سلام کرے تو وہ میت اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔

ابن عبد البر نے ”استد کار“ اور ”تمہید“ میں زرارہ بن اوی سے روایت کیا ہے:
من کان یعرفه و یحبه فی الدنیا .

یعنی جسے وہ دنیا میں پہچانتا اور محبت رکھتا تھا اسے قبر میں بھی جانتا پہچانتا ہے۔

حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں :

بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله

ویوما بعده .

یعنی (معتبر ذرائع سے) مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میت اپنے زائر کو روزِ جمعہ، جمعرات، اور ہفتہ کو (بطورِ خاص) جانتی پہچانتی ہے۔

حضرت خاک فرماتے ہیں :

من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت، قيل له: و كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة .

یعنی اگر کسی نے ہفتہ کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کی تو میت اس کو جان لیتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا: روزِ جمعہ کے شرف و منزلت کی وجہ سے۔

حضرت ابن عباس سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه و رد عليه السلام .

یعنی اگر کوئی اپنے برادرِ دینی کی قبر سے گزرے اور دنیا میں ایک دوسرے سے شناسائی بھی رہی ہو، تو جیسے ہی وہ اسے سلام کرتا ہے، میت نہ صرف یہ کہ اسے پہچان لیتی ہے بلکہ اس کے سلام کا جواب بھی مرحمت کرتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً آیا ہے :

ما من عبد يمر على رجل يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه و رد عليه السلام .

یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان (کے مزار) سے گزرے جس سے دنیا میں شناسائی تھی، تو جب وہ اسے سلام کرتا ہے، تو میت پہچان کر اس کے سلام کا اسے جواب دیتی ہے۔

”اربعین طائیہ“ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یوں آئی ہے :

آننس ما یکون المیت فی قبره إذا زاره من کان یحجه فی دار الدنیا .

یعنی میت اپنی قبر میں اس وقت اُنس و فرحت محسوس کرتی ہے جب اس کا کوئی اپنا زیارت کو آئے جو دنیا میں اُسے چاہا کرتا تھا۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ آثار و احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جب کوئی قبر کی زیارت کو جاتا ہے تو میت نہ صرف یہ کہ اس کو جان لیتی ہے بلکہ اس کے سلام کو سنتی، اس سے اُنس حاصل کرتی اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ اور اس میں شہیدوں ہی کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ یہ حکم ہر ایک میت کے لیے عام ہے، اور اس میں کسی وقت اور دن کی بھی کوئی قید نہیں۔

اور حضرت ضحاک نے وقت اور دن کی جو قید لگائی تھی اس سے صحیح تریہ ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اہل قبر پر سلام کرنے کا جو طریقہ و انداز بتایا ہے اس سے خود باور ہوتا ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔

روحوں کے کاشانے

حضرت ابن مسعود سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

أَرْوَاحُ الشَّهِداءِ فِي حِواصِلٍ طَيْرٍ خَضْرٍ تَسْرِحُ فِي الْجَنَّةِ حِيثُ شاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ تَعْتَدُ العَرْشَ . (۱)

(۱) کنز العمال متفقہ بندی: ۳۱۳/۳ حدیث: ۱۱۷۰۔

یعنی شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں بہشت کے اندر جہاں
چاہیں اڑتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے آؤیزاں قندیلوں میں آ کر پناہ گزیں
ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابن عباس سے مروی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لما أصيَّبَ أَصْحَابَكُمْ بِأَحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي حَوَالِنَ
طَيْرٌ خَضْرٌ تَرَدَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَ تَأَكَّلَ مِنْ ثَمَارِهَا، وَ تَأْوِي إِلَى
قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مَعْلَقَةً فِي ظَلِّ الْعَرْشِ . (۱)

یعنی تمہارے جودوست جگ احمد میں شہید کیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان
کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں کر دیا، اب وہ جنت کی نہروں کی سیر
کرتے، اس کے پھل میوے کھاتے اور عرش تلے آؤیزاں قنادیل زریں پر
آشیاں لشیں ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

:

الشَّهِيدُونَ عَلَى بَارِقِ نَهْرِ الْجَنَّةِ فِي قَبْرِهِ خَضْرًا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ
رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بَكْرَةً وَ عَشِيهِ .

یعنی ارواح شہداء سبز قبوں میں باب جنت سے اس کی نہروں میں جاتی ہیں
اور صبح و شام جنت سے اپنا (روحانی) رزق حاصل کرتی ہیں۔

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں :

(۱) مسن عبد بن حميد: ۲۹۷ / ۲ حدیث: ۲۸۱۔

الشهداء في قباب في رياض الجنّة يبعث إليهم ثور و حوت
فيتعترّكـان بهما، فإذا احتاجوا إلى شيء عقر أحدهما صاحبه
فياكلون فيجدون فيه طعم كل شيء في الجنّة .

یعنی شہداء باغاتِ جنت کے قبوں میں (رہائش پذیر) ہوتے ہیں۔ تو اور
حوت ان کی طرف دوڑتے ہیں، جن کے ساتھ وہ مستقی و دل لگی کرتے ہیں، پھر
جب انھیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، ان میں سے ایک اپنے دوست کو ذبح
کر دیتا ہے، اب جب وہ اسے کھاتے ہیں تو اس میں جنت میں موجود جملہ
چیزوں کا کیف و مزامالتا ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ کی شہادت پر ان کی ماں نے پوچھا:
یا رسول اللہ! حارثہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہو تو میں خود تو تلقین صبر کر دیتی ہوں
اور اگر وہ وہاں نہیں کہیں اور ہے تو پھر دیکھیں (میں رو رو کر اپنا حال کیا) بنا لیتی
ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَ إِنَّهُ فِي الْفَرْدَوْسِ الْأَعُلَىٰ . (۱)
یعنی تمہیں پتا ہے کہ جنتیں تو بہت ہیں مگر وہ (سب سے افضل جنت) فردوس
اعلیٰ میں ہے۔

حضرت کعب بن مالک سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
إنما نسمة المؤمن طائر يتعلق في شجر الجنّة حتى يرجعه الله
تعالى إلى جسده يوم يبعثه .

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: ۵۲۳/۳: حدیث: ۱۸.....البعث والثبور تہیق: ۱/ ۲۲۷: حدیث: ۲۱۲.....الجہاد لابن المبارک: ۱/ ۸۳: حدیث: ۸۲.....سباعیات ابوالعالی فراوی: ۱/ ۱۵: حدیث: ۱۳.....مندرجات: ۱۶۹/۳: .

یعنی مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں شاخ جنت سے لگکی ہوتی ہے پھر جب بعث بعد الموت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے بدن میں لوٹا دے گا۔

حضرت اُم ہانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پس مرگ ایک دوسرے کی زیارت اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے تعلق سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا :

یکون بائعم طیر یتعلق بالشجر، حتیٰ إذا کان یوم القيامۃ
دخلت کل نفس فی جسدہا .

یعنی (روح) بہترین قسم کے پرندے کی شکل میں درخت سے لگکی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر روح اپنے اپنے جسد خاکی میں ڈال دی جائے گی۔

حضرت ام بشر بن براء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مردے آپس میں کس طرح ملتے اور شناخت کرتے ہیں؟ فرمایا :

تربرت یداک النفس الطيبة طیر خضر في الجنة فإن کان
الطیر یتعارفون في رؤوس الشجر فإنهم یتعارفون .

یعنی اللہ تجھے خوش رکھے!۔ پاکیزہ روحیں جنت میں بزر پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح درخت کے سرے اور ہبھیوں پر بیٹھے پرندے آپس میں متعارف ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ روحیں بھی آپس میں شناخت قائم کر لیتی ہیں۔

حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت آیا تو ام بشر بن براء نے ان کے پاس آ کر عرض کیا: اے ابو عبد الرحمن! اگر تمہاری فلاں سے ملاقات ہو تو اسے میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ انھوں نے فرمایا: اے ام بشر!

اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اس کی کیا خبر ہوگی! عرض کیا: کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اقدس نہیں سنا :

إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت و نسمة الكافر في سجين مسجونة .

یعنی بندہ مومن کی روح جنت میں من چاہی جگہوں کی سیر کرتی ہے اور کافر کی روح سجن میں قید ہوتی ہے۔

فرمایا: ہاں۔ عرض کیا: تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں۔

مرود بن حبیب کے مراسیل میں یہ موجود ہے :

سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال :
فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنة حيث شاءت قالوا يا
رسول اللہ وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة فی سجين .

یعنی میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارواح موماناں کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: وہ سبز پرندوں کے قابل میں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پوچھا: یا رسول اللہ اور کافروں کی روحلیں (کہاں ہوتی ہیں)؟ فرمایا: وہ سجن کے اندر مقید ہوتی ہیں۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضراتِ سلمان فارسی اور عبد اللہ بن سلام آپس میں ملے تو ایک نے دوسرے سے کہا: اگر تم مجھ سے پہلے اپنے رب سے جاملو تو ملاقات کی کیفیت سے مجھے آگاہ کرنا؟ کہا: کیا زندے بھی مردے سے ملتے ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ مونوں کی روحلیں جہاں کی چاہیں (بلاروک ٹوک) سیر کرتی رہتی ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں :

أرواح المؤمنين كالزرازير تأكل من ثمر الجنة .

یعنی مومنوں کی روحیں گوریوں کی طرح جنت کے بھلوں سے محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔

ابن مندہ نے بھی اسے مرفوع ارداویت کیا ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں :

جنة المأوى فيها طير خضر ترتفقى فيها أرواح المؤمنين
الشهداء تسروح في الجنة، وأرواح آل فرعون في أجواف طير
سود و على النار تغدو و تروح وإن أطفال المؤمنين في عصافير
في الجنة .

یعنی جنت الماوی کے اندر سبز پرندے ہوں گے، جس کی فضاؤں میں مومن شہیدوں کی روحیں سیر و تفریح کرتی پھریں گی۔ اور آل فرعون (کافروں) کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں صبح و شام جہنم پر پیش کی جائیں گی۔ اور مومنوں کے بچے چڑپوں کی شکل میں جنت کے اندر موجود ہوں گے۔

حضرت ہذیل فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں آتش جہنم کے اوپر اڑتی پھریں گی، جب کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں اور مسلمانوں کے نابالغ بچے چڑپوں کی شکل میں جنت میں چھپھاتے چلتے اور سیر کرتے رہیں گے۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں :

أرواح المؤمنين في صور طير بيض في ظل العرش وأرواح
الكافرين في الأرض السابعة .

یعنی بندگانِ مومن کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں سایہ عرش تلے ہوتی ہیں۔ جب کہ کافروں کی روحیں زمین کے ساتوں طبقہ (سبین) میں ہوتی ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ معراج مجھے بنی آدم کے مقامِ عروج پر پہنچایا گیا اور کسی مخلوق نے اسِ معراج کو اس سے حسین نہیں دیکھا جیسے مردہ اپنی آنکھ کے پختے وقت آسمان کی طرف نظر آٹھا کر دیکھتا ہے اور اسے عجیب و غریب منظر نظر آتا ہے۔ پھر میں اور جبریل دونوں اوپر چڑھے اور دروازہ آسمان کھلوایا گیا تو ہاں حضرت آدم ملے جو اپنی مومکن ذریت کی روحوں کا مشاہدہ کر کے فرماتے ہیں تھے کہ یہ پاکیزہ روحیں ہیں انھیں علمین میں جگہ دو۔ یوں ہی اپنی کافر ذریت کی روحوں کو دیکھ کر فرمایا: یہ گندی و خبیث روحیں ہیں انھیں سمجھنے میں (مقید) کر دو۔

حضرت ابوہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّمَاوَاتِ السَّابِعَةِ يَنْظَرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ .

یعنی اہل ایمان کی روحیں ساتویں آسمان پر جنت میں اپنے ٹھکانے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہوتی ہیں۔

حضرت وہب بن منبه فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بیضانامی ایک گھر بنا رکھا ہے، جہاں مومنوں کی روحیں باہم اکٹھا ہوتی ہیں۔ توجہ بزم دنیا سے اٹھ کر کوئی وہاں جاتا ہے تو روحیں اس سے اسی طرح ملتی اور دنیا کی بابت پوچھ گچھ کرتی ہیں جس طرح کوئی مسافر اپنے گھر پہنچ کر اہل خانہ کے احوال معلوم کرتا ہے۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسما کے پاس عبد اللہ بن زبیر کی تعزیت کے لیے گیا حالاں کہ ان کا جذہ تاہنوز سولی پر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے

کہا: آپ بالکل آزردہ غمگین نہ ہوں کیوں کرو جیں تو آسمان میں اللہ کے حضور چلی جاتی ہیں، یہ محض ان کا جذہ لئک رہا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن زید حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ترفع أرواح المؤمنين إلى جبريل فيقال: أنت ولی هذه إلى
يوم القيمة .

یعنی مونوں کی رو جیں پس پرواہ حضرت جبریل کے پاس لاٹی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہی قیام قیامت تک ان کے والی ونگہ بان ہیں۔

حضرت مغیرہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت عبد اللہ بن سلام سے شرفِ ملاقات حاصل کرنے کے بعد فرمایا :

إِنْ مَتَ قَبْلِي فَأُخْبُرُنِي بِمَا تَلَقَّى، وَ إِنْ مَتَ قَبْلَكَ أُخْبُرُتَكَ،
قَالَ: وَ كَيْفَ وَ قَدْ مَتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْجَسَدِ
كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى جَسَدِهِ.

یعنی اگر تمہاری قضا مجھ سے پہلے آجائے تو اپنے (برزخی) احوال پر مجھے مطلع کرنا۔ اور اگر تم سے پہلے میں ہی رخصت ہو گیا تو میں تمہیں ان کیفیات سے آگاہ کروں گا۔ پوچھا: پس مرگ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ فرمایا: روح جسم سے نکل کر آسمان و زمین کے درمیان (سیر کر رہی) ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے جسد خاکی میں لوٹ نہ جائے۔

ارشادِ باری تعالیٰ :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ
مُسَمُّى (۱)

الله جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان (جانوں) کو جنہیں
موت نہیں آئی ہے، ان کی نیند کی حالت میں، پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا
حکم صادر ہو چکا ہوا اور دوسری (جانوں) کو مقررہ وقت تک چھوڑ رکھتا ہے۔

کی تفیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے
کہ روحیں زمین و آسمان کے درمیان مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں مردوں
کے ساتھ زندوں کی روحیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح مردہ جانوں کا زندہ جانوں کے ساتھ
تعلق برقرار رہتا ہے۔ اب جب روح کو حکم ہوتا ہے کہ اس زندہ جان میں پلٹ جاتا کہ وہ
اپنا رزقِ حیات پورا کر سکے تو مردہ جان تو وہیں روک لی جاتی ہے اور دوسری (ادھر) مجھ
دی جاتی ہے۔

مندرجہ میں میں ہے تاہم حدیث ابو درداء سے ان کے بیٹے کی سند اُن تک ثابت
نہیں:

الْمَيْتُ إِذَا ماتَ دَبَرَ بِهِ حَوْلَ دَارِهِ شَهْرًا وَ حَوْلَ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ
يُرْفَعُ إِلَى السَّبْبِ الَّذِي تَلْتَقِي فِيهِ أَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ .

یعنی پس انتقال میت کی روح ہمینہ بھراں کے گھر اور سال بھراں کی قبر کے
اروگرد مُلاحتی رہتی ہے۔ پھر اسے اس جگہ اٹھالیا جاتا ہے جہاں مردوں اور
زندوں کی روحیں باہم ملاقات کرتی ہیں۔

(۱) سورہ زمر: ۳۹/۴۲

حضرت سعید بن میتب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بُرْزَخٍ مِّنَ الْأَرْضِ تَذَهَّبُ حِيثُ شَاءَتْ، وَ
أَنْفُسُ الْكَافِرِينَ فِي سَجِينٍ .

یعنی بندگانِ مومن کی روحلیں بزرخ زمین میں جہاں چاہیں پھرتی رہتی ہیں
جب کہ کافر کی روحلیں سجن میں (مقید) ہوتی ہیں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ بزرخ، چوں کہ دو چیزوں کے درمیانی آڑ کو کہتے ہیں، تو بہت حد تک ممکن ہے کہ یہاں بزرخ سے مراد دنیا و آخرت کے درمیان کی زمین ہو۔

حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں :

بَلْغَنِي أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مَرْسُلَةٌ تَذَهَّبُ حِيثُ شَاءَتْ .
یعنی (معتبر ذرائع سے) مجھے خبر پہنچی ہے کہ موننوں کی روحلیں بالکل آزاد ہوتی ہیں اور جہاں چاہیں (بے روک ٹوک) آتی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں :

أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ تَجْمَعُ بِبِرْهُوتٍ—سَبَخَةٌ بِحُضُرِ مَوْتٍ—وَأَرْوَاحُ
الْمُؤْمِنِينَ تَجْمَعُ بِالْجَابِيَّةِ .

یعنی کافروں کی روحلیں زمین برہوت میں اکٹھا ہوتی ہیں جو کہ حضرموت کا ایک شور زدہ نکلا رہا ہے۔ اور موننوں کی روحلیں ملک جابیہ (کی خوشنگوار فضاوں والی زرخیز زمین) میں ہوتی ہیں۔

حضرت عروہ بن رویم فرماتے ہیں :

الْجَابِيَّةُ تَجْمَعٌ إِلَيْهَا كُلُّ رُوحٍ طَيِّبَةٍ .

یعنی جملہ طیب و پاکیزہ روحلیں جابیہ میں لاائی جاتی ہیں۔

حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

أدواح المؤمنين في بشر زمزم، وأدواح الكافرين في واد يقال

له برهوت . (۱)

یعنی ارواح مومنان چاؤ زمزم تلتے ہوتی ہیں۔ جب کہ ارواح کافر اس وادی
برہوت میں۔

(۱) اس کی تصدیق اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جسے امام ذہبی نے اپنی کتاب ”الکبائر“ میں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک امیر کبیر شخص حج بیت اللہ کے ارادے سے لکھا۔ جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو اس نے ایک صاحب امانت دویانت شخص کے پاس ایک ہزار دینار امارات رکھ دیتے تاکہ وہ قوف عرفات کے بعد وہ آگر اُسیں واپس لے لے۔ واپسی میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے۔ گھروں سے پوچھا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہمیں اس سلسلہ میں کچھ بھی علم نہیں۔ چنانچہ وہ شخص علامے مکی بارگاہ میں جا کر اپنا ماجراجستایا۔ انہوں نے فرمایا: نصف شب میں تم چاؤ زمزم کے پاس جاؤ اور اس شخص کا نام لے کر وہاں پہکارو، اگر وہ اہل بہشت سے ہوگا تو تمہاری پہکار کا پہلی فرضت میں جواب دے گا۔ چنانچہ وہ شخص چاؤ زمزم کے پاس پہنچ کر آواز دینے لگا۔ گھر کہیں سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ نامراد ہو کر پھر علامہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس کی داستان سن کر انہوں نے ”انا شد وانا الیل راجحون“ پڑھا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارا دوست اہل دوزخ سے ہو گیا۔ اب ایسا کرو سرز من یعنی جاؤ اور وہاں چاؤ برہوت (جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے دہانے پر واقع ہے) کے پاس اسے آواز لگاؤ، امید ہے کہ وہ تمہاری آواز کا جواب دے گا۔ چنانچہ وہ شخص مکن پہنچا اور پوچھتے پوچھتے چاؤ برہوت کے پاس شب میں پہنچا اور اس کا نام لے کر آواز لگائی۔ اس نے جواب دیا۔ پوچھا: میرے دینار کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر میں فلاں مقام پر اُسیں دُن کر دیا ہے مگر اس کے بارے میں گھروں کو مطلع نہ کر سکا۔ تو جاؤ اور زمزم میں کھود کر اپنی امانت حاصل کرلو۔

اس نے کہا: ہم تو آپ کو بڑا پرہیز گارا در دین دار بھروسہ ہے تھے، آخر کیا چیز آپ کو یہاں لے آئی؟ کہا: اصل میں ہو ایہ کہ میری ایک فقیر و بے سہارا بہن تھی جس کی طرف سے میں ہمیشہ غافل ہا اور اس کی دیکھ رکھنے کی تو اسی کا خمیازہ یہاں بھگت رہا ہوں۔ کتنی پچھی بات فرمائی ہے میرے آقائلیہ السلام نے:

لَا يدخل الجنة قاطع رحم . یعنی خونی رشیئے کا نئے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ (الکبائر: ارے ۱)
چہریا کوٹی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں :

أرواح المؤمنين تجمع باريحا وأرواح المشركين تجمع
بظافر من حضرموت .

یعنی مونوں کی رو جس شہر آریحا میں جمع کی جاتی ہیں۔ اور مشرکوں کی رو جس
حضرموت کی ایک وادی ظافر میں۔

حضرت وہب بن مدبه فرماتے ہیں :

إن أرواح المؤمنين إذا قبضت ترفع إلى ملك يقال له
رميائيل وهو خازن أرواح المؤمنين .

یعنی جب مونوں کی رو جس کی جاتی ہیں تو انھیں رمیائل نامی ایک فرشتہ
کے پاس لے جایا جاتا ہے، چونکہ ارواح مونماں کا خازن یہی فرشتہ ہے۔

حضرت آبان بن ثعلب کسی اہل کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں :

الملک الذي على أرواح الكفار يقاله له دوحة .

یعنی کافروں کی روحوں کے خزانچی فرشتے کا نام دوحة ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں :

الخضر على منبر من نور بين البحر الأعلى و البحر الأسفل و
قد أمرت دواب الأرض أن تسمع له و تطيع، و تعرض عليه
الأرواح بكرة و عشية .

یعنی حضرت خضر بحر اعلیٰ اور بحر اسفل کے درمیان ایک منبر نور پر جلوہ افروز
ہوتے ہیں، جملہ زمینی چوپائے ان کی اطاعت و خدمت گزاری پر مامور ہیں۔

اور صبح و شام رو جیں ان پر پیش کی جاتی ہیں۔

یہ ان تمام احادیث و آثار کا مجموعہ مرکب ہے جو ہمیں روحوں کے ٹھکانوں کے تعلق سے دستیاب ہو سکیں۔ ہاں آثار کے قوت و ضعف کے اعتبار سے اہل علم کے اس سلسلہ میں مختلف اقوال و آراء ہیں۔

ابن قیم کہتے ہیں: اس سلسلہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور عالم بزرخ کے اندر روحوں کے درجات میں اپنے ٹھکانوں کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تاہم اس سلسلہ میں فراہم کردہ دلیلیں بے غبار ہیں؛ کیوں کہ ان میں سے ہر ایک لوگوں کی ان کے درجات کے اعتبار سے نشان دہی کرتی ہے۔

کہتے ہیں کہ بہر حال روح کا بدن سے بہت ہی گہر اربط و اتصال ہوتا ہے۔ تبھی تو اسے مخاطب و سلام کرنا اور اس پر اس کا ٹھکانہ وغیرہ پیش کیا جانا درست ہوگا، جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے؛ کیوں کہ روح کا معاملہ بالکل جدا گانہ ہوتا ہے، وہ (ایک طرف تو) رفیق اعلیٰ کے حضور میں ہوتی ہے اور (دوسرا طرف) بدن سے بھی اپنا تعلق اُستوار رکھتی ہے کہ جب اس کا کوئی دوست آشنا سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ تو یہ روح کا مقام ہوتا ہے۔

اس مقام پر بعض لوگوں نے غالب کوشاہد پر قیاس کر کے دھوکہ کھایا ہے؛ الہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ جب روح بدن سے جدا ہو کر کہیں اور چلی جائے تو اب پھر اس روح کا کسی جگہ لوٹ کر آنا ممکن نہیں تو یہ غلط مفہوم ہے۔ (کیا آپ نے نہیں سن اپڑھا کر) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ معراج موئی علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر چھٹے آسمان پر بھی ان کی زیارت ہوئی۔ تو یہاں پر روح بدن کے ساتھ تھی کیوں کہ روح کا بدن کے ساتھ گھبرا اتصال ہوتا ہے جبھی تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کا

جواب دے رہے تھے۔ تو گویا روح کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ رفیقِ عالیٰ کے حضور میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مغایرت بھی نہیں؛ کیوں کہ روح کا معاملہ بدن کے معاملہ سے کمتر مختلف ہے۔ بعض لوگوں نے روح کی مثال سورج سے بھی پیش کی ہے کہ وہ ہوتا تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین پر پڑتی رہتی ہیں۔ نیز ارشادِ رسالت مآب ہے :

من صلی علیٰ عند قبری سمعته، و من صلی علیٰ نائیا بلغته۔

(۱)

یعنی جو شخص میری قبر پر آ کر درود پڑھے تو میں اس کا درود خود اپنے کانوں سے سننا ہوں اور جو دور سے درود بھیج تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

قطع نظر اس کے کہ آپ کی روح ارواحِ انبیاء کی معیت میں مقامِ علیین بلکہ رفیقِ عالیٰ کے حضور میں ہوتی ہے۔

اب روحیں (سچین میں ہوں) یا زمین و آسمان کے درمیانی آڑ میں یا پھر سچین میں جہاں بھی ہوں بہر حال ان کا جسموں سے خاص اتصال ولگاؤ ہوتا ہے جس کے باعث انھیں ادراک، سنسنے پڑھنے اور نماز ادا کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک عجیب چیز ہے کیوں کہ شاہدِ نیوی سے اس کی کوئی مشاہدہ نہیں۔ یوں ہی آخرت کے معاملات اور عالمِ برزخ بھی دنیا کے حالات سے بالکل جدا ہوتا ہے۔

الہذا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ بھلی بڑی روح، ہر کسی کا صرف ایک ہی ٹھکانہ نہیں بلکہ (راتب و درجات کے اعتبار) سے ان کے ٹھکانے مختلف ہوں گے۔ تاہم ہر کسی کا

(۱) مکملۃ المسائل: ۲۰۲/۱ حدیث: ۹۳۳..... شعب الایمان: ۳/۱۰۳ حدیث: ۱۵۲۲..... حیاة الانبیاء فی قورہم: ۱/۱۹ حدیث: ۱۸..... کنز العمال: ۱/۳۹۲ حدیث: ۲۱۲۵..... روضۃ الحدیثین: ۳۱۸/۳ حدیث: ۱۱۹۳۔

اپنے ٹھکانے سے قبر کے اندر اپنے جسموں کے ساتھ ربط و اتصال باہمی ہو گا جس سے نوشتہ تقدیر کے مطابق انھیں نعمت و راحت یا عذاب و سزا مل سکے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مونوں کی رو جیں مقام علمین میں ہوں گی۔ اور کافروں کی سمجھیں میں۔ اور ان میں سے ہر کسی کی روح کا اپنے بدن کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال ہوتا ہے مگر اس اتصال کی تشبیہ دنیوی زندگی سے نہیں دی جاسکتی۔ ہاں سونے کی حالت سے اس کو یک گونہ مشابہت ہے، تاہم اُس اتصال کی کیفیت سونے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔

فرمایا: الہذا وہ جورو جوں کا ٹھکانہ علمین یا سمجھیں یا کنوں بتایا گیا تھا اس طرح اس کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ اور ابن عبد البر نے جمہور سے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ اپنے قبروں کی فضاؤں میں گردش کرتی رہتی ہیں۔

فرمایا: ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا کرنے کی اجازت (خاص) ملی ہو، تاہم وہ رہتی اپنے ٹھکانہ علمین یا سمجھیں ہی میں ہو۔

فرمایا: اور جب میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو تب بھی وہ ربط و اتصال مذکور بدستور برقرار رہتا ہے۔ یوں جب اُس کے اعضا پھٹ جائیں یا لکڑے کے لکڑے ہو جائیں تب بھی۔

صاحب الافصاح فرماتے ہیں کہ روح کے لیے حصول نعمت و راحت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔

ان میں ایک یہ کہ وہ پرندے کی صورت جنت کے مختلف درختوں پر (سیر و تفرجع کرتی پھرتی) ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ سبز چڑیے کے قالب میں ہوتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ گوریے کی صورت چڑیے کے قالب میں ہوتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ جنت کے درختوں پر ہوتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ اعمال کے نتیجے میں پیدا شدہ (کسی خاص) صورت میں ہوتی ہے۔

- ۶ -

ان میں ایک یہ کہ وہ یوں ہی سیر کرتی پھرتی اور اپنے جنت کی دیکھ رکھ کے لیے آ جاتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ نئی قبض شدہ روحوں سے ملتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ حضرت میکائیل کی کفالت میں ہوتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ حضرت آدم کی کفالت میں ہوتی ہے۔

ان میں ایک یہ کہ وہ حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوتی ہے۔

حضرت قرطی فرماتے ہیں: یہ ایک بڑی بہترین اور جامع تطہیق ہے جس نے سب

کچھ اپنے اندر سمولیا ہے، اور اس کا دفاع ورد بھی نہیں ہو سکتا۔

امام بیہقی نے اپنی کتاب ”عذاب القبر“ میں ارواح شہداء کے بارے میں حدیث ابن مسعود اور حدیث ابن عباس ذکر کرنے کے بعد کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت براء سے مردی بخاری کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ جب رسول گرامی وقارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم (کم عمری میں) دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

إن له مرضعاً في الجنة . (۱)

(۱) صحیح بخاری: ۱۷۸/۵ سنن ابن ماجہ: ۳/۲۶۵ سنن ابن حیث: ۳۰۱۵-۵۷۲-۱۴۹۳ مسلم: ۳/۳۲۸ مسلم: ۳/۳۲۸ منزاح: ۲۱۲۸ مسلم: ۱۰۳/۳۸ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳/۲۵۵ مسلم: ۱۸۳ مسن درک: ۱۰۲/۱ مسلم: ۱۰۳/۳۸ صحیح ابن حبان: ۲۸/۲۸ مسلم: ۳۲۹ مسلم: ۳۲۹ مسلم: ۳۰۲/۲ مسن طیلی: ۷/۸۵ کنز العمال: ۱۱/۲۷۰ مسلم: ۳۲۲۱۲ صحیح الزوادر: ۹/۱۲۲۔

یعنی جنت میں اس کے لیے ایک (خصوصی) دودھ پلانے والی ہے (جو اس کی بقیہ مدت رضاعت پوری کر دے گی)۔

پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نور نظر ابراہیم کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے کہ اسے جنت میں دودھ پلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ مدینہ کی مشہور و معروف قبرستان جنتۃ البیع میں مدفون تھے۔

حضرت امام نسیبی "بحرالکلام" میں فرماتے ہیں کہ روحیں چار طرح کی ہو سکتی ہیں:
انیاے کرام کی روحیں: ان کے جسد طاہر سے نکلنے کے بعد مہک و کافور کی شکل ڈھار لیتی ہیں۔ جنت میں کھاتی پیتی اور عیش کرتی ہیں، پھر رات گئے قنادیل عرش میں پناہ گزیں ہو جاتی ہیں۔

پیکر ان طاعت شہدا کی روحیں: ان کے جسموں سے نکل کر سبز پرندہ کی صورت جنت کی نضاوں میں (سیر کنाह) ہوتی ہیں، اور وہ بھی وہاں کھاتی پیتی اور مونج کرتی ہیں اور رات ہوتی ہے تو عرش تلے لٹکے ہوئے قنادیل میں آشیان نشیں ہو جاتی ہیں۔

فرماں برداروں کی روحیں: دیوارِ جنت پر ہوتی ہیں۔ انھیں کھانے پینے کی اجازتِ عام تو نہیں ہوتی تاہم جنت میں گھومتی پھرتی ہیں۔

گندگار مومنوں کی روحیں: زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں۔

اور کافروں کی روحیں سیاہ پرندے کے قالب میں زمین کے سات طبق نیچے مقام سمجھن میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے جسموں سے ان کا تعلق بدستور قائم ہوتا ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ جیسے سورج کہ ہوتا تو آسمان پر ہے مگر اس کی روشنی زمین پر پڑتی ہے۔

قصہ اہل ایمان کے نونہالوں کی رضااعت و حضانت کا
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں :

کل مولود یولد فی الإسلام فهو فی الجنة شبعان ریان، يقول
یا رب اور دعیٰ أبویٰ .

یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا ہر بچہ جنت میں بالکل تروتازہ اور آسودہ
حال ہوگا۔ وہ (بے تابی کے عالم میں) عرض کرے گا: اے پروردگار! میرے
والدین کو میرے پاس آنے کی کوئی سبیل کر دے۔

حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک درخت کا نام طوبی ہے، جس
کی (شاخیں) تھن دار ہوں گی جن سے جنتی بچوں کو دودھ پلا یا جائے گا۔ اور ناقص
گرجانے والا حمل جنت کی نہروں میں پلٹیاں کھارہا ہوگا۔ پھر جب انھیں عرصہ محشر میں
لایا جائے گا تو یہ چالیس سال کے ہوں گے۔

حضرت عبید اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی ٹہنیاں
گائے کے تھن کی مانند تھن دار ہیں جن سے نونہالان بہشت کو غذا فراہم کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

أولاد المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم و سارة، حتى
يوردهم إلى آبائهم يوم القيمة .

یعنی بہشت میں نونہالاں اہل ایمان کی کفالت حضرات ابراہیم و سارہ فرمائیں
گے۔ پھر قیامت کے دن یہ بچے اپنے اپنے والدین کے سپرد ہو جائیں گے۔
والحمد لله رب العالمين .

﴿ وقت ہزار نعمت ﴾ آز: محمد افروز قادری چریا کوئی

وقت، ایک عظیم نعمت اور خداوند قدوس کی عطا کردہ بیش قیمت دولت ہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں وقت نے بڑا آہم کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن قوموں نے وقت کے ساتھ دوستی رچائی، اور اپنی زندگی کے شام و سحر کو وقت کا باہندہ کر لیا، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئیں، صحراؤں کو گلشن میں تبدیل کر دیا، اور زمانے کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں تھام لی؛ لیکن جو قومیں وقت کو ایک بیکار چیز سمجھ کر یوں ہی گتواتی رہیں تو وقت نے انھیں ذات و عکبت کی آٹھاء گہرا یوں میں ایسا ڈھکیل دیا کہ دور در تک کھو جنے سے آج ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ لہذا ہوش کے ناخن لیں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کی شکل میں جو عظیم نعمت دے رکھی ہے اس کی قدر کریں؛ ورنہ یہ نعمت بہت جلد چھن جانے والی ہے، اور پھر کافِ افسوس ملنے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ وقت کی قدر و قیمت کے تعلق سے ایک بیش بہتر فہر۔

علامہ ابن جوزی - ۷۵۹ھ - کی دل افروز نصیحت

﴿ پنے لخت جگر کے لیے ﴾ آز: محمد افروز قادری چریا کوئی

عزیز بیٹے! جسے دولتِ عرفان نہیں ملتی وہ دنیا کی عمر کو بہت زیادہ سمجھتا ہے؛ لیکن پس مرگ اُسے معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا قیام کتنا مختصر تھا۔ فرض کرو کہ ایک شخص کو ساٹھ سال کی زندگی ملی، تمیں سال تو اُس نے سونے میں گنوادیے، اور قریباً پندرہ سال بچپن کے لا ابالی پن میں گزر گئے۔ اب جو باقی بچے، اُن کا اگر دیانت داری سے جائزہ لو تو زیادہ تر اوقات لذات و شہوات اور کھانے کمانے کی نذر ہو گئے۔ اب جو تھوڑی بہت کمائی آخرت کے لیے کی تھی اُس کا اکثر حصہ غفلت اور ریا و خود کی خوست سے آتا ہوا ہے۔ اب بتاؤ وہ کس منہ سے حیاتِ سرمدی کا سودا کرے گا، اور یہ سارا کام سارا سودا انھیں گھڑیوں اور سانسوں پر موقوف تھا!..... حدیث پاک کے مطابق ” سبحان اللہ و محمد ” پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے، بیٹے! اب ذرا فکر کو آج دے کر سوچو کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو بر باد کرنے والا کتنے بہشتی باغات کھو بیٹھتا ہے!!!۔

بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے کہانیوں کے ساتھ **بچہ چالیس حدیثیں** آز: محمد افروز قادری چریا کوئی


بچے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور چنستان، حقیقتی کے رنگ برلنگے بچوں ہیں، ان کے اخلاق بچوں کی پتوں کی طرح نازک ہوتے ہیں، اچھا ادب اُن کے لیے باد بھار ہے جب کہ فرش لٹڑ پچ باغز اس۔ زندگی کے جس موڑ پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی نازک موڑ ہوتا ہے۔ عادتیں وہیں سے نئی اور بگرتی ہیں۔ اخلاقی تربیت کا یہ بیش بہا تخفہ دراصل اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ایک قابلِ رنگ زندگی کی تعمیر میں وہ اس سے روشنی حاصل کر سکیں، اور قوم و ملت کے لیے فتحی سرمایہ بن سکیں۔ بچوں کے اخلاق و کردار کی تعمیر و تطہیر کے حوالے سے یہ ادنیٰ سی کوشش شاید آپ کے بچوں کی زندگی میں کامیابی کی لئک پیدا کر دے۔ یہ کتاب ہر گھر کے ثیبل کی ضرورت ہے۔

مرنے کے بعد کیا بنتی؟ آز: محمد افروز قادری چریا کوئی

یہ کتاب دراصل پس انتقالِ خواب میں دیکھنے جانے والوں کے کوائف و آحوال پر مشتمل ایک وجد آفرین مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا ہر ہر واقعہ اور مرنے والوں کی ایک ایک بات، جہاں عبرت آموز و صحت خیز ہے، وہیں ذہن و دماغ کو جھੁঞ্জھوڑنے اور انتقال بلانے والی بھی ہے۔ پڑھتے پڑھتے کہیں کہیں آپ اشک بار ہو جائیں گے تو کہیں تمیم زریل ب سے شادا کام ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ واقعات ہمیں اپنی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں، اپنے عمل کے محابے پر بھی اکساتے ہیں اور رحمت خداوندی سے ماپوی کے آندھیروں سے بھی چھکارا دلاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سرخیں اتنی، حضرت جنید بغدادی -رحمہ اللہ- (متوفی: ۹۷۴ھ) کو وصال کے بعد کسی نے عالمِ خواب میں دیکھ کر دریافت کیا: اے ابوالاقاسم! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نیز آپ ہمیں اُس جنس گراں مایہ کے بارے میں آگاہ فرمائیں جس کی مانگ، جہاں برزخ میں زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: رکوع و تکوون، قیام و قعود، کشف و کرامات اور مراقبہ و مجاہدہ سب محدود ہو گئے اور مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے، بھر ان چند رکعتوں کے جنہیں میں نے نیم شی کی خلوتوں میں ادا کیا تھا۔

ملنے کا پتہ: نعمانی بک ڈپو، مچھلی منڈی، پانڈے کڑا، چریا کوٹ، منتو، یوپی، انڈیا 276129

تاخیر کا موقع نہ تذبذب کا محل
یہ وقتِ عمل وقتِ عمل وقتِ عمل ہے



اس دنیا میں ایک شخص کی کل پنجی اس کا وقت ہے
 بلکہ وقت ہی انسان کی کل کائنات ہے
 وقت کا خالق کرنا غنیمانے کے متواتر ہے
 وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کے حوالے
 سے ایک دلپڑ ریخیر

وقت ہزار نعمت ہے

فیض گن بخش بکے سنٹر

رہبردار کیست رائادر برار لارڈ
0321 4021 314